

الَّذِينَ يُسِرُّ

مقرر قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے
(اختیار)

ایک منٹ کا درس

(اضافہ شدہ ایڈیشن)

تھوڑی فرصت والوں کے لئے خاص تحفہ

ازالمات

حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب مہذب العالی

مترجم

خانقاہ اہل سنت مولانا شاہ کا محمد اختر صاحب مدظلہ العالی

اضافہ ترتیب

مولوی عبید الروف صاحب

کتاب خانہ مظہری

گلشن اقبال، پوسٹ بکس ۱۱۱۸۲

کراچی ٹورنہ ۳۶۸۱۱۲

الدَّيْنِ يُسِيرًا

نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے ○ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

ایک منظر کا مد

تھوڑی فرصت والوں کے لیے خاص تحفہ

○ انشا افکاداشا ○

محی السنۃ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم
ناظم مجلس دعوت الحق و مدرسہ اشرف المدارس ہردوی

مرتبین
مولانا حکیم محمد اختر صاحب
ملاوی عبدالرزاق صاحب

△

کتاب کا نام — ایک منٹ کا مدرسہ

ادارات — شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا شاہ ابوالفتح صاحب دست برکاتیم
ناظم تعلیم و تہذیب و علوم اہل حق و مدرسہ اشرف المدارس ہمدانیہ یو۔ پی۔ ایند

مترجمین — مولانا حکیم محمد اختر مستازی مجددہ مجاز بیعت می السیۃ حضرت اقدس مولانا شاہ ابوالفتح صاحب دست برکاتیم
مولوی عبدالرزاق مستاسمین نائب ناظم مدرسہ اشرف المدارس۔ ہمدانی۔ یو۔ پی۔ ایند

صفحات — ۱۳۶

کتابت — مانتہ محمد حامد صدیقی دہلوی

مطبع — کتب خانہ مظہری۔ گلشن اقبال بلاک نمبر ۲۰، کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ

مقدمہ طبع اول

ایک منٹ کا مدرسہ

(بعد نماز فجر یا بعد نماز عصر)

آج کل تمام عالم میں حضرت والا ہردوئی (مخبر السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب حق دامت برکاتہم مجاز بیعت مجدد الملتہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ و ناظم مجلس دعوت الحق و مدرسہ اشرف المدارس ہردوئی، یوپی (ہند) کا جہاں بھی سفر ہوتا ہے، "ایک منٹ کا مدرسہ" حضرا و سفر میں جاری کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور عملاً اس کی مشق بھی کراتے ہیں کیونکہ امت مسلمہ میں غفلت کا مرض بڑھ رہا ہے، زیادہ دیر کا وعظ سننے سے گھبراتے ہیں اور اکثر اوقات دفتر کی ملازمت یا تجارت کی مصروفیت بھی ان کے لیے طویل وعظ سننے سے مانع بنتی ہے، اس لیے یہ آسان طریقہ (ایک منٹ کا مدرسہ) بعد نماز فجر یا بعد نماز عصر یا دونوں وقت جاری کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ ایک اُمتی بھی محروم نہ اور دین کی ضروری ضروری باتوں سے آگاہی ہو جاوے۔ اس ایک منٹ میں حسب ذیل مضمون بیان کرنے کا مشورہ دیتے ہیں:

① نماز کی سورتوں اور دعاؤں اور تسبیحات کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتایا جائے جس کی ترتیب نماز کی ترتیب کے مطابق ہو یعنی پہلے اللہ اکبر کے معنی پھر ثناء پھر اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پھر سورۃ فاتحہ وغیرہ۔

برسوں نماز پڑھتے ہوئے ہو جاتے ہیں لوگوں کو اپنی نمازوں کی تسبیحات اور

دعاؤں اور اذکار کا ترجمہ نہیں معلوم ہوتا جس سے نماز میں دل نہیں لگتا ورنہ جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اگر اس کا ترجمہ معلوم ہو اور اس کی طرف دھیان رکھا جاوے تو نماز کا لطف بڑھ جاوے اور نماز میں یکسوئی اور حضوری بھی عطا ہو کیونکہ قاعدہ کلیہ ہے کہ النفس لا تتوجه الی شیئین فی ان واحد۔ فلسفہ کا قاعدہ ہے کہ نفس ایک وقت میں دو شے کی طرف توجہ نہیں کرتا پس جب اپنے رب سے مناجات کے مفہوم کا خیال رکھے گا تو غیر اللہ کی طرف خیال نہیں جاسکے گا۔

چنانچہ نماز کو حسین بنانے کی تعلیم اس حدیث میں ہے کہ إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُؤَدِّعٍ۔ جب نماز پڑھو تو اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھو شاید دوسری نماز تک زندگی نہ ہو تو اس نماز کو کس قدر حسین اور اچھی پڑھے گا۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث کا جزو ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کے اس جزو کی شرح اس طرح فرماتے ہیں کہ — مُؤَدِّعٍ اِیْ لِمَا سَوَى اللّٰهِ بِالْاِسْتِعْرَاقِ فِيْ مَنَاجَاتِ مَوْلَاهُ۔ (مرقاۃ ج ۹ ص ۳۹۱) اپنے مولیٰ کی مناجات میں غرق ہونے کے سبب اپنے قلب کو غیر اللہ سے خالی کر لو۔

② ایک سنت ایک دن بتائی جاوے مثلاً نماز میں قیام کی گیارہ سنتوں سے ایک سنت یہ بتائی جاوے کہ سیدھا کھڑا ہونا اور سر کو نہ جھکانا، دوسرے دن یہ بتاویں کہ کل سیدھے کھڑے ہونے کی سنت بتائی گئی تھی آج یہ سنت بتائی جا رہی ہے کہ پیروں کی انگلیاں بھی کعبہ شریف کی طرف ہوں، تیسرے دن اس طرح بتائیں کہ پہلے دن اور دوسرے دن یہ سنت بتائی گئی تھی: — سیدھے کھڑے ہونا اور پیروں کی انگلیوں کا قبلہ رو ہونا، آج تیسرے دن یہ سنت بتائی جا رہی ہے کہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ مقتدی کی تکبیر تحریمہ ادا ہو لیکن شرط یہ ہے کہ امام کی تکبیر تحریمہ سے مقتدی کی تکبیر تحریمہ پہلے نہ ختم ہو ورنہ نماز ہی صحیح نہ ہوگی، اس لیے ساتھ ساتھ سے مراد یہ ہے کہ تاخیر نہ کرے امام کی تکبیر تحریمہ ختم ہوتے ہی فوراً مقتدی بھی تکبیر تحریمہ کہے۔ اس طرح ایک سنت

تین دن اور تین سنت ایک دن کا سلسلہ جاری ہوگا اور یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔

حضرات! برسوں ہو جاتے ہیں ہماری نمازیں سنت کے مطابق ادا نہیں ہوتی ہیں۔ بعض اہل علم کو بھی دیکھا گیا کہ عملی مشق نہ ہونے سے ان کو بھی سنتوں کا استحضار نہیں ہوا، جب گزارش کی گئی تو بہت مسرور ہوئے۔ طریق مذکور سے پوری زندگی سنت کے مطابق ہو سکتی ہے۔ سنت کی عظمت پر احقر کا ایک شعر ہے

نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے
اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

ہر مسجد کے ائمہ حضرات اگر "ایک منٹ کا مدرسہ" اسی طرح جاری فرمائیں تو نماز، وضو، کھانے، پینے، سونے، جاگنے، مسجد میں آنے جانے کی تمام سنتوں کا علم ہو سکتا ہے، ایک سال میں تین نو سو ساٹھ سنتیں یاد ہو سکتی ہیں۔

③ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ بتایا جائے جو جہنم میں گرانے کے لیے کافی ہے تاکہ اس سے توبہ کی توفیق ہو۔

④ گناہوں کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں جن کو "جزا الاعمال" میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے: "ہر روز ایک نقصان کو بتاؤ بعد میں گناہوں سے آخرت کے چند نقصانات بھی روزانہ ایک ایک بیان کر دے۔"

⑤ نیکیوں کے فوائد جو دنیا میں عطا ہوتے ہیں ان میں سے ایک بتایا جاوے اور آخر میں نیکیوں سے آخرت کا ایک ایک فائدہ روزانہ بتایا جاوے۔ ان پانچ باتوں کو ایک منٹ میں بیان کر دے یہ ایک منٹ کا مدرسہ ہے۔ شاید کوئی بھی ایک منٹ کے مدرسے سے محروم نہ رہے گا کیونکہ مشغول سے مشغول آدمی بھی ایک منٹ دے سکتا ہے۔

اس کے بعد درس تفسیر یا درس حدیث کا جو سلسلہ علمائے کرام اور ائمہ

کرام کا ہو اس کو جاری فرماویں جن کو وقت ہوگا وہ اس میں شرکت کریں گے اور جن کے پاس وقت نہ ہوگا وہ ایک منٹ کے مدرسہ سے نفع اٹھالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک منٹ کا مدرسہ سارے عالم میں جاری فرماویں اور اس کے نفع کو عام و تمام فرماویں اور اس کے موجد و مؤلف کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بناویں۔ آمین!

وَآخِرُ دَعْوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

محمد اختر

گلشن اقبال ٹکڑا کراچی، پاکستان

پوسٹ بکس ۱۱۸۲

بجارت بیعت علی السنتہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب

حقیقی ذات برکاتہم ناظم مجلس دعوت الحق و مدرسہ

اشرف المدارس ہردوئی یوپی (ہند)

عبدالرزاق



مقدمہ طبع ثانی

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

ماشاء اللہ تعالیٰ مولوی حکیم محمد اختر صاحب زید فضا کے "ایک منٹ کا مدرسہ" کی ترتیب دی جس سے لوگ منتفع ہو رہے ہیں۔ اس میں ہر دن تین سنن کا تذکرہ تو ہے مگر دیگر امور میں اس کی پابندی سے ذہول ہو گیا ایک ہی پر اکتفا کیا گیا اس لیے جی چاہا کہ دیگر امور کا بھی تین دن کا سبق تحریر کر دیا جائے نیز فرائض نماز و واجبات کا بھی اضافہ مناسب معلوم ہوا کہ عام اہل دیہات کو بھی پورا نفع پہنچ جاوے۔ نیز مکروہات و مقصدات نماز کا بھی۔

اس لیے اس کا نمونہ مولوی عبدالرؤف صاحب سنسار پوری زید رشدہ معین نائب ناظم مدرسہ اشرف المدارس کو بتلایا گیا کہ اس طرح بقیہ اسباق کا تکملہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے بفضلہ تعالیٰ فی الحال ۵۱ سبق کا تکملہ کر دیا ہے۔ ہندی میں بھی اس کے ترجمہ کا قصد ہے۔ بفضلہ تعالیٰ انگریزی، بنگلہ، گجراتی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس ترمیم شدہ کا بھی ترجمہ دیگر زبانوں میں کرانے کا احباب کرام کا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی قبول فرمادیں اور اپنے بندوں کو بھی ان سے مستفید ہونے کی توفیق بخشیں۔ آپ سے بھی اسی دعا کی گزارش ہے۔ والسلام

ابرار الحق عفی عنہ

ناظم مجلس دعوت الحق و مدرسہ اشرف المدارس

ہردوئی، یوپی۔ ہند

۶ رجب ۱۳۱۱ھ

۲۳ جنوری ۱۹۹۱ء

فرائض نماز (۷)

① تکبیر تحریم ② قیام (کھڑا ہونا) ③ قرأت (قرآن شریف میں سے کوئی سورت یا آیت پڑھنا) ④ رکوع کرنا ⑤ دونوں سجدہ کرنا ⑥ قعدہ اخیرہ میں التحیات کی مقدار بیٹھنا ⑦ اپنے اختیار سے نماز سے فارغ ہونا۔ حکم یہ ہے کہ اگر ان امور میں سے کوئی بھی چھوٹ جاوے تو نماز نہ ہوگی دوبارہ پڑھنی ہوگی۔

واجبات نماز (۱۸)

① سورہ فاتحہ پڑھنا ② اس کے ساتھ کوئی سورت بلانا ③ فرض کی پہلی دو رکعتوں کو قرأت کے لیے مقرر کرنا ④ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا ⑤ سجدہ میں پیشانی کے ساتھ ناک بھی رکھنا ⑥ دوسرے سجدہ کو پہلے سجدہ کے متصل کرنا ⑦ ارکان کو سکون سے ادا کرنا ⑧ قعدہ اولیٰ یعنی تین یا چار رکعت والی نماز میں دو رکعت پر بیٹھنا ⑨ قعدہ اولیٰ میں تشہد کا پڑھنا ⑩ قعدہ اخیرہ میں تشہد کا پڑھنا ⑪ تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے فوراً کھڑا ہونا ⑫ لفظ سلام کے ساتھ سلام پھیرنا ⑬ وتر کی نماز میں دعا قنوت پڑھنا ⑭ عیدین کی تکبیرات کہنا ⑮ عیدین کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے لیے تکبیر کہنا ⑯ لفظ اشداکبیر کہہ کر نماز شروع کرنا ⑰ امام کو زور سے قرأت کرنا فجر، عشاء، مغرب، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کی وتر میں ⑱ ظہر عصر میں اور دن کی سنت اور نفلوں میں آہستہ قرأت کرنا۔

حکم۔ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چھوٹ جاوے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔

مُفْسِدَاتِ نَمَازٍ

مفسداتِ نماز اُن چیزوں کو کہتے ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی ٹوٹ جاتی ہے اور اسے ٹوٹانا ضروری ہوتا ہے۔

- ① زبان سے کوئی کلمہ نکالنا اگرچہ غلطی سے یا بھول کر ہو ② انسانی کلام کے مشابہ کلام سے دعا کرنا مثلاً اے اللہ! کھانا کھلائیے مجھے ③ ملاقات کی نیت سے سلام کرنا اگرچہ بھول کر ہو ④ زبان سے یا مصافحہ کرنے کے ذریعہ کسی کے سلام کا جواب دینا ⑤ عمل کثیر کرنا مثلاً دونوں ہاتھوں سے پانچامہ باندھنا ⑥ قبلہ کی طرف سے سینہ کا پھیر جانا ⑦ جو چیز منہ کے اندر نہ ہو اس کا کھانا اگرچہ تھوڑی ہو ⑧ دانتوں کے درمیان کی چیز کا کھانا جبکہ چنے کے بقدر ہو ⑨ کسی چیز کا پینا ⑩ بلا کسی عذر کے کھنکارنا ⑪ اُف اُف کرنا ⑫ آہ آہ کرنا ⑬ اُوہ اُوہ کرنا ⑭ مصیبت و درد کی وجہ سے رونے کی آواز کو بلند کرنا ⑮ چھینکنے والے کے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے جواب میں یَرْحَمُکَ اللّٰہ کہنا ⑯ کسی کے اس سوال پر کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے مُصلیٰ کا اس کے جواب میں لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ کہنا ⑰ کسی بُری خبر پر اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ پڑھنا ⑱ خوشخبری پر اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہنا ⑲ تعجب خیز خبر کو سُن کر لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ یا سُبْحٰنَ اللّٰہ کہنا ⑳ کسی کو کسی امر کی طرف متوجہ کرنے کے ارادہ سے قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھنا جیسے يَا يٰحَيُّیْ خُذِ الْکِتٰبَ بِقُوَّةٍ وغیرہ ㉑ تیمم کئے ہوئے شخص کا پانی پر قادر ہو جانا ㉒ موزہ کے مسح کی مدت کا پورا ہو جانا ㉓ مسح کیے ہوئے موزہ کا اتار دینا ㉔ کسی اُن پڑھ کا نماز جائز ہونے کے بقدر قرآن پاک سیکھ لینا ㉕ ننگے بدن والے شخص کا ستر ڈھانکنے کے بقدر

کپڑے پر قادر ہو جانا (۲۶) اشارہ سے رکوع و سجدہ کرنے والے شخص کا رکوع و سجدہ کرنے پر قادر ہو جانا (۲۷) صاحب ترتیب کو اپنی فوت شدہ نماز کا یاد آجانا اور وقت میں گنجائش بھی ہونا (۲۸) ایسے شخص کو خلیفہ بنانا جو امامت کے قابل نہ ہو (۲۹) نماز فجر پڑھتے وقت سورج کا نکل آنا (۳۰) عیدین کی نماز میں زوال آفتاب ہو جانا (۳۱) نماز جمعہ پڑھنے کی حالت میں عصر کا وقت آجانا (۳۲) زخم اچھا ہونے کی وجہ سے حالت نماز میں پٹی کا گر جانا (۳۳) معذور کے عذر کا ختم ہو جانا (۳۴) قصداً حدث کرنا (مثلاً وضو توڑ دینا) (۳۵) کسی دوسرے کے عمل سے حدث لاحق ہو جانا مثلاً چیتے کا آجانا (۳۶) بیہوش ہو جانا (۳۷) مجنون اور پاگل ہو جانا (۳۸) کسی پر نظر ڈالنے سے غسل کی حاجت ہو جانا (۳۹) نماز میں اس طرح سوئے کر سونے سے نماز نہ فاسد ہو اور احتلام ہو جائے (۴۰) اجنبی عورت کا بغیر کسی پردے کے مرد کے پہلو میں کھڑا ہونا جبکہ نماز میں دونوں مشترک ہوں اور دونوں کی تحریمہ ایک ہو اور مرد نے عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہو (۴۱) جس شخص کو حدث لاحق ہو جائے اس کا ستر کھل جانا گو وہ اس کے کھولنے پر مجبور ہو (۴۲) جس شخص کا وضو ٹوٹ گیا ہو اس کو وضو کے لیے جاتے ہوئے یا فارغ ہو کر آتے ہوئے قرأت کرنا (۴۳) حدث لاحق ہونے کا علم ہونے کے باوجود بالقصد ایک رکن کی مقدار ٹھہر جانا (۴۴) حدث لاحق شدہ شخص کو قریب پانی ملنے کے باوجود دور جانا (۴۵) حدث لاحق ہونے کے گمان سے مسجد سے باہر نکل جانا (۴۶) مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ نماز پڑھنے کی صورت میں حدث کے گمان سے صفوں سے باہر نکل جانا (۴۷) اس گمان سے نماز سے پھر جانا کہ وضو نہیں ہے یا یہ کہ مدت مسح پوری ہو گئی ہے یا اس پر فوت شدہ نماز ہے یا بدن یا کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے حالانکہ معاملہ اس کے

خلاف ہو اگرچہ مسجد سے باہر نہ نکلا ہو (۴۸) دوسرے مقتدیوں کے امام کو قلمہ دینا (۴۹) ایک نماز سے دوسری نماز میں منتقل ہونے کی تکبیر کہنا (۵۰) تکبیر کے ہمزہ پر مد کرنا (۵۱) جو سورتیں یا آیتیں یاد نہ ہوں ان کو نماز میں پڑھنا (۵۲) ستر کھلے رہنے کے ساتھ ایک رکن ادا کرنا یا اتنی مقدار کھلا رہنا (۵۳) ایسی نجاست کا ہونا خواہ وہ حکمی ہو یا حقیقی ہو جو کہ مانع صلوٰۃ ہو (۵۴) مقتدی کا کسی رکن میں امام سے سبقت لے جانا کہ امام اس رکن میں اس کے ساتھ شریک نہ ہو (۵۵) مسبوق کا اتباع کرنا امام کے سجدہ سہو میں مثلاً امام پر سجدہ سہو واجب تھا غلطی سے اس نے سلام پھیر دیا مسبوق اپنی گئی رکعت کو پورا کرنے لگا کہ امام کو یاد آیا اور اس نے سجدہ سہو کیا تو یہ مسبوق بھی اس میں اس کی اتباع کرے (۵۶) قعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد یاد آنا کہ سجدہ نماز میں رہ گیا ہے اس کو ادا کرنے کے بعد دوبارہ قعدہ اخیرہ کی مقدار نہ بیٹھنا (۵۷) حالتِ نوم میں ادا کیے ہوئے رکن کو بیداری کے بعد اس کا اعادہ نہ کرنا (۵۸) قعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد امام کے تہہ پہ لگانے سے مسبوق کی نماز فاسد ہونا اور امام کی نماز فاسد نہ ہونا البتہ امام پر واجب ہے کہ دوبارہ وضو کر کے اس کا اعادہ کرے (۵۹) اس نماز میں جو دو رکعت والی نہ ہو (مثلاً عشر اور مغرب) اس نماز میں دو رکعت پر اس گمان سے سلام پھیر دیا کہ مسافر ہوں حالانکہ وہ مسافر نہیں بلکہ مقیم ہے (۶۰) جو شخص نیا مسلمان ہو اس کا دو رکعت کے علاوہ تین یا چار رکعت والی فرض نماز کو دو رکعت فرض گمان کر کے اس پر سلام پھیر دینا۔

(منقول از نور الایضاح)

مکروہاتِ نماز

مکروہاتِ نماز وہ افعال کہلاتے ہیں جن کے کرنے سے نماز گھٹیا یعنی سو درجہ کی ہو جاتی ہے اور ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ لہذا ان کے چھوڑنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔

- ① نماز کی حالت میں اپنے بدن یا کپڑے سے کھیلنا ② کنکریوں کو ہٹانا اگر سجدہ کرنے میں دقت ہو تو ایک مرتبہ ہٹانے کی اجازت ہے
- ③ انگلیاں چٹھانا ④ تشبیک کرنا یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا ⑤ ہاتھ کو لٹھے پر رکھنا ⑥ حالتِ نماز میں گردن ادھر ادھر پھیرنا ⑦ کتے کی طرح بیٹھنا یعنی سرین زمین پر رکھ لینا اور دونوں گھٹنے کھڑے کر لینا ⑧ ذراعین (یعنی کہنیوں کو) کو بچھا دینا
- ⑨ آستینوں کو سمیٹنا ⑩ گڑتا یا قیص پہن سکنے کے باوجود صرف لنگی یا پانجامہ میں نماز پڑھنا ⑪ سلام کا جواب ہاتھ یا سر کے اشارہ سے دینا
- ⑫ بلا عذر چارزانو (پالٹی مار کر) بیٹھنا ⑬ مرد کا قبل نماز جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا ⑭ اعتبار کرنا یعنی رومال کو سر پر اس طرح باندھنا کہ سر کا درمیانی حصہ کھلا رہے ⑮ رکوع سے اٹھتے وقت کڑتے کو سنوارنا یا سجدہ میں جاتے وقت لنگی یا پانجامہ سمیٹنا ⑯ رومال یا کسی کپڑے کا سر یا کندھے پر اس طرح ڈالنا کہ اس کے کنارے لٹکے رہیں ⑰ اشتمال الصائم کرنا یعنی کپڑا اپنے پورے بدن پر سر سے پیر تک اس طرح پھینا کہ ہاتھ نہ نکال سکے
- ⑱ اپنے کندھے کے نیچے (بغل) سے کپڑا نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈالنا ⑲ نماز نفل کے ہر شفع میں پہلی رکعت کا دوسری رکعت سے زیادہ طویل کرنا ⑳ تمام نمازوں میں دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے بقدر

تین آیات یا اس سے زیادہ طویل کرنا (۲۱) فرض کی کسی بھی رکعت میں کسی سورت کا مکرر پڑھنا (۲۲) نماز میں سورتوں کا بے ترتیب پڑھنا (۲۳) نماز میں دو سورتوں کا اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں کوئی پھوٹی سورت چھوڑ دینا (۲۴) اپنی سجدہ کی جگہ پر رکھی ہوئی خوشبو کو سونگھنا (۲۵) اپنے کپڑے سے خوشبو کو سونگھنا (۲۶) پنکھا جھلانا ایک دو بار (۲۷) حالت سجدہ یا اس کے علاوہ میں ہاتھ پیر کی انگلیوں کو قبلہ کی جانب سے پھیر لینا (ہٹا دینا) (۲۸) حالت رکوع میں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر نہ رکھنا (۲۹) جمائی لینا (۳۰) دونوں آنکھوں کا بند کرنا (۳۱) آنکھوں کا آسمان کی طرف اٹھانا (۳۲) انگڑائی لینا (۳۳) عمل قلیل کرنا مثلاً بال کا اکھاڑنا (۳۴) جوں کا پکڑنا اور اس کو مار ڈالنا (۳۵) منہ اور ناک ڈھک لینا (۳۶) منہ میں کسی ایسی چیز کا رکھنا جو کہ قرأت مسنونہ کے لیے مانع ہو (۳۷) عمامہ کے بیچ پر سجدہ کرنا (۳۸) بغیر کسی عذر کے سجدہ میں صرف پیشانی رکھنا ناک نہ رکھنا (۳۹) راستہ میں نماز پڑھنا (۴۰) غسل خانہ میں نماز پڑھنا (۴۱) بیت الخلاء میں نماز پڑھنا (۴۲) قبرستان میں نماز پڑھنا (۴۳) دوسرے کی زمین میں بغیر اس کی رضامندی کے نماز پڑھنا (۴۴) جس جگہ نجاست پڑی ہو اس کے قریب نماز پڑھنا (۴۵) پیشاب پافانہ کے تقاضے کے وقت نماز پڑھنا (۴۶) ریح کے خارج کرنے کے تقاضے کے وقت نماز پڑھنا (۴۷) اتنی مقدار نجاست لگے رہنے کے ساتھ نماز پڑھنا کہ اس کے دھوئے بغیر نماز ہو جائے جبکہ جماعت یا وقت نماز فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو (۴۸) ایسے گندے کپڑوں میں نماز پڑھنا کہ جس کو معزز شخص کے سامنے پہن کر نہ جائیں (۴۹) ننگے سر نماز پڑھنا (۵۰) بھوک لگنے کی صورت میں نماز پڑھنا جبکہ کھانا تیار ہو (۵۱) ہر وہ چیز جو نماز کے خشوع میں غفل پیدا کرنے والی ہو اس کا کرنا مثلاً ہوا و لعب (۵۲) قرآن پاک کی آیات و تسبیحات کا انگلیوں پر شمار کرنا (۵۳) امام کا محراب کے اندر یا بن السارقین (ستونوں) کھڑا ہونا (۵۴) امام کا ایک ذراع (ہاتھ) اونچی

جگہ پر یا پست زمین میں تنہا کھڑا ہونا (۵۵) اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود پچھلی صف میں کھڑا ہونا (۵۶) ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا جس میں جاندار کی تصویر ہو (۵۷) ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ جہاں نمازی کے سر کے اوپر یا دائیں یا بائیں یا آگے یا پیچھے جاندار کی تصویر ہو (۵۸) مسجد کی تصویر ہونا (۵۹) مسجد میں نماز کے لیے کسی جگہ کو مستعین کر لینا (۶۰) تنور یا انگیسٹھی کے سامنے نماز پڑھنا کہ اس میں دھونی ہو (۶۱) سونے والوں کے پیچھے نماز پڑھنا (۶۲) پیشانی سے مٹی صاف کرنا (۶۳) کسی ایک سورت کا مستعین کر لینا کہ اس کے علاوہ دوسری سورت نہ پڑھے (۶۴) ایسی جگہ بغیر سترہ لگائے نماز پڑھنا کہ جہاں لوگوں کے گزرنے کا گمان ہو (۶۵) چوری کے کپڑے میں نماز پڑھنا (۶۶) کسی شخص کا نماز پڑھنے والے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا اور مصلیٰ کا ایسی صورت میں نماز پڑھنا۔

(منقول از نورالایضاح و حاشیہ الطحاوی و شامی)



پندرہ روز

سبق نمبر (۱)


نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

- ① ترجمہ اذکار نماز **اللَّهُ أَكْبَرُ** اللہ سب سے بڑا ہے۔
 ② نماز کی سنتیں ① شیدھا کھڑا ہونا یعنی سر کو پست نہ کرنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ① حقارت سے کسی پر ہنسنا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ① آدمی علم دین سے محروم رہتا ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ① احکام الہی پر عمل کرنے سے رزق بڑھتا ہے کبھی رزق کی ظاہری زیادتی بھی ہوتی ہے اور برکت تو ہمیشہ عطا ہوتی ہے۔



- نماز کی سنتیں اکیادہ ہیں — قیام کی ۱۱، قرأت کی ۷، رکوع کی ۸، سجدہ کی ۱۲،
 قعدہ کی ۱۳۔
 • بڑے بڑے گناہ پچاس ہیں۔

سبق نمبر (۲)

نَحْمَدُكَ يَا وَثِيْقِي عَلَى رَسُوْلِيهِ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز: اَللّٰهُمَّ اَكْبِرْ اِنَّكَ سَبَّ سَبِّ بَرِّ اِنَّكَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ
 "اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں۔"

② نماز کی سنتیں ① سیدھا کھڑا ہونا یعنی سر کو پست نہ کرنا ② پیروں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھنا اور دونوں پیروں کے درمیان چار انگلی کا فاصلہ رکھنا یہ سنت ہے۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ① حقارت کے کسی رہنسا ② کسی کو طعنہ دینا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ① آدمی علم دین سے محروم رہتا ہے ② رزق میں کمی ہو جاتی ہے یعنی برکت جاتی رہتی ہے۔

⑤ ناعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ① احکام الہی پر عمل کرنے سے رزق بڑھتا ہے کبھی رزق کی زیادتی بھی ہوتی ہے اور برکت تو ہمیشہ عطا ہوتی ہے ② طرح طرح کی برکتیں زمین و آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔



سبق نمبر (۳)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز اَللّٰهُمَّ اَنْتَ بَرُّ اللّٰهِ سَبَّ سَبُّكَ اللّٰهُمَّ اے اللہ

ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں وَبِحَمْدِكَ اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں

② نماز کی سنتیں ① سیدھا کھڑا ہونا ② پیروں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھنا

اور دونوں پیروں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ رکھنا یہ مستحب ہے ③ مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ہونا۔

فائدہ: مقتدی کی تکبیر تحریمہ اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہوگئی تو اقتداء صحیح نہ ہوگی (طلحاوی)۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس

پر فضل فرمائیں) ① حقارت سے کسی پر ہنسنا ② کسی کو طعنہ دینا ③ کسی کو

بڑے لقب سے پکارنا جیسے اداوندے، ادا لنگڑے، ادا موٹے وغیرہ۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ① آدمی علم دین سے

محروم رہتا ہے ② رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ ③ گنہگار کو خدا تعالیٰ سے ایک

دشت سی رہتی ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ① احکام الہی پر عمل کرنے سے

رزق بڑھتا ہے کبھی رزق کی زیادتی بھی ہوتی ہے اور برکت تو ہمیشہ عطا ہوتی ہے

② طرح طرح کی برکتیں زمین و آسمان سے نازل ہوتی ہیں ③ ہر قسم کی تکلیف

و پریشانی دور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی دشواری سے نجات عطا فرماتے ہیں۔



سبق نمبر (۴)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

(۱) ترجمہ اذکار نماز: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں
وَعَمَدُكَ اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اور تیرا نام بہت
برکت والا ہے۔

(۲) نماز کی سنتیں (۲) پیروں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھنا اور دونوں پیروں
کے درمیان چار انگل کا فاصلہ رکھنا یہ مستحب ہے (۳) مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی
تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ہونا (۴) تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ کانوں
تک اٹھانا۔ (یہ سنت صرف مردوں کے لیے ہے)

(۳) بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے
نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس
پر فضل فرمائیں) (۲) طعن کرنا (۳) کسی کو بڑے لقب سے پکارنا جیسے اواندھے
وغیرہ (۴) بدگمانی کرنا یعنی بلا دلیل شرعی صرف حالات و قرائن سے کسی کو برا سمجھنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں (۲) رزق میں کمی ہو جاتی
ہے (۳) گنہگار کو اللہ تعالیٰ سے وحشت سی رہتی ہے (۴) گنہگار کو آدمیوں سے
بھی وحشت ہونے لگتی ہے بالخصوص نیک لوگوں سے کہ ان کے پاس بیٹھ کر دل نہیں
لگتا اور جس قدر وحشت بڑھتی جاتی ہے ان سے دور اور ان کے برکات سے
محروم ہو جاتا ہے۔

(۵) طاقت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں (۲) طرح طرح کی برکتیں زمین و
آسمان سے نازل ہوتی ہیں (۳) ہر قسم کی تکلیف پریشانی دور ہوتی ہے (۴) مقاصد
میں آسانی ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی فرمادیتے ہیں۔



سبق نمبر (۵)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز وَنَحْمَدُكَ اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

اور تیرا نام بہت برکت والا ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ اور تیری شان بہت بلند ہے۔

② نماز کی سنتیں ③ مقصدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ہونا

④ تکبیر تحریمہ کہتے وقت مردوں کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ⑤ تکبیر تحریمہ کے وقت ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا۔

③ برے برے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر

فضل فرمائیں) ③ کسی کو برے لقب سے پکارنا ④ بدگمان کرنا یعنی بلا دلیل شرعی

صرف حالات و قرائن سے کسی کو برا سمجھنا ⑤ کسی کا عیب تلاش کرنا۔

③ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ④ گنہگار کو خدا تعالیٰ سے

وحشت سی رہتی ہے ④ آدمیوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے بالخصوص اللہ

والوں کے پاس بیٹھنے ہے ⑤ گنہگار کو اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے۔

⑤ ناعنت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ④ ہر قسم کی تکلیف و پریشانی دور

ہوتی ہے ④ مقاصد میں آسانی ہوتی ہے ⑤ نیکی کی برکت سے زندگی مزیدار

ہو جاتی ہے۔ فی الواقع کھلی آنکھوں یہ بات نظر آتی ہے کہ ایسی پُر لطف زندگی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں۔



سبق نمبر (۶)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ إِنَّكَرِيهِ

① ترجمہ اذکارِ شام وَ تَبَارَكَ اِسْمُكَ اور تیرا نام بہت برکت والا ہے وَ تَعَالَى جَدُّكَ اور تیری شان بہت بلند ہے وَلَا اِلٰهَ غَدُوكَ اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

② نماز کی سنتیں ③ تکبیر تحریر کے وقت مردوں کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ④ ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا ⑤ انگوٹھوں کو اپنی حالت پر رکھنا یعنی نہ زیادہ کھلی ہوں اور نہ زیادہ بند۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ بدگمانی کرنا یعنی بلا دلیل شرعی محض حالات و قرآن سے کسی کو برا سمجھنا ⑤ کسی کا عیب تلاش کرنا ⑥ کسی کی غیبت کرنا یعنی اس کی پیٹھ پیچھے اس کو بُرائی سے یاد کرنا جس کو اگر وہ سُنے تو اس کو ناگوار ہو۔

④ گناہ کے نقصانات جو دُنیا میں پیش آتے ہیں ⑤ گنہگار کو آدمیوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے خصوصاً نیک لوگوں سے ⑥ اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے ⑦ دل میں ایک ظلمت پیدا ہو جاتی ہے جس کی نحوست سے آدمی بدعت و گمراہی و جہالت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دُنیا میں ملتے ہیں ④ مقاصد میں آسانی ہوتی ہے ⑤ نیکی کی برکت سے زندگی پُر لطف ہو جاتی ہے ⑥ بارش ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اولاد ہوتی ہے، باغات پھلتے ہیں، نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے۔



سبق نمبر (۷)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① **ترجمہ اذکار نماز** وَتَعَالَى جَدِّكَ اور تیری شان بہت بلند ہے وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اَعُوذُ بِنَاہِ چاہتا ہوں میں۔

② **نماز کی سنتیں** ⑤ ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا ⑥ انگلیوں کو

اپنی حالت پر رکھنا یعنی نہ زیادہ کھلی نہ زیادہ بند ④ ہاتھ باندھتے وقت داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا۔

③ **بڑے بڑے گناہ** جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے نگر دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ⑤ کسی کا عیب تلاش کرنا ⑥ کسی کی غیبت کرنا ④ بلا وجہ کسی کو بُرا بھلا کہنا۔

④ **گناہ کے نقصانات** جو دُنیا میں پیش آتے ہیں ⑤ اکثر کاموں میں

دشواری پیش آتی ہے ⑥ دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے ④ دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ دل کی کمزوری تو ظاہر ہے کہ نیک کاموں کی ہمت گھٹنے گھٹتے بالکل ختم ہو جاتی ہے اور جسم چونکہ دل کے تابع ہے اس لیے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر تندرست و قوی کفار بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے مقابلہ میں نہ ٹھہر سکتے تھے۔

⑤ **طاقت کے فائدے** جو دُنیا میں ملتے ہیں ⑤ نیکی کی برکت سے زندگی

پر لطف ہو جاتی ہے ⑥ بارشس ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اولاد ہوتی ہے، باغات پھلتے ہیں، نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے ④ اللہ تعالیٰ مومن صالح سے تمام آفات و ضرور کو دور کر دیتا ہے۔



سبق نمبر (۸)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں

أَعُوذُ بِنَاهِ جَاهِتَا هُوں میں بِاللَّهِ اللہ کی مدد سے۔

② نماز کی سنتیں ⑥ انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا یعنی نہ زیادہ کھلی نہ زیادہ بند

④ ہاتھ باندھتے وقت داہنے ہاتھ کی استھیلی کو بائیں ہاتھ کی استھیلی کی پشت پر رکھنا

⑧ چھنگلیا اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گتے کو پکڑنا۔ (مردوں کے لیے)

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس

پر فضل فرمائیں) ⑥ کسی کی غیبت کرنا ④ بلا وجہ کسی کو برا بھلا کہنا

⑧ چغلی کھانا یعنی ادھر کی بات ادھر لگا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا۔

③ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ⑥ دل میں ظلمت پیدا

ہوتی ہے ④ دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے نیک کاموں

کی ہمت گھٹتے گھٹتے ختم ہو جاتی ہے ⑧ آدمی توفیق طاعت اور نیک اعمال سے

محروم ہو جاتا ہے۔ آج ایک طاعت گئی کل دوسری چھوٹ گئی پرسوں تیسری رہ گئی،

یوں ہی سلسلہ وار تمام نیک کام گناہ کی بدولت ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ بارش ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے،

اولاد ہوتی ہے، باغات پھلتے ہیں، نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے ④ اللہ تعالیٰ

مومن صالح سے تمام آفات اور شرور کو دور کر دیتا ہے ⑧ مالی نقصان کا تدارک

ہو جاتا ہے اور نعم البدل مل جاتا ہے۔



سبق نمبر (۹)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز اَعُوْذُ بِنَاهِ چاہتا ہوں میں یا اللہ اللہ کی مدد سے مِنَ الشَّيْطَانِ

شیطان سے۔

② نماز کی سنتیں ④ ہاتھ باندھتے وقت داہنے ہاتھ کی پھیلی بائیں کی پھیلی کی پشت

پر رکھنا ⑧ پھنگلیا اور انگلیوں سے حلقہ بنا کر گئے کو پکڑنا ① مردوں کے لیے

⑨ درمیانی تین انگلیوں کو کلائی کی پشت پر رکھنا (مردوں کے لیے)۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس

پر فضل فرمائیں) ④ بلا وجہ کسی کو برا بھلا کہنا ⑧ چغلی کھانا یعنی ادھر کی بات

ادھر لگا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا۔ ⑨ تہمت لگانا یعنی جو عیب کسی میں نہ

ہو وہ اس کی طرف منسوب کرنا۔

③ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ④ دل اور جسم میں

کمزوری پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے طاعت سے محروم ہوتا جاتا ہے ⑧ آدمی

توفیق طاعت اور نیک اعمال سے محروم ہوتا جاتا ہے ⑨ زندگی گھٹتی ہے اور زندگی

کی برکت نکل جاتی ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ④ اللہ تعالیٰ مومن صالح سے تمام

شُرور و آفات کو دور کر دیتا ہے ⑧ مالی نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اور نعم البدل

مل جاتا ہے ⑨ نیک کام میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔



سبق نمبر (۱۰)

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

① ترجمہ اذکار نماز یا اللہ اللہ کی مدد سے مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ سے الرَّجِیْمِ مردود۔ اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شیطن مردود سے۔

② نماز کی سنتیں ⑧ چھٹکھیا اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گئے کو پکھڑانا (مردوں کے لیے) ⑨ درمیانی تین انگلیوں کو کلائی کی پشت پر رکھنا (مردوں کے لیے) ⑩ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا (مردوں کے لیے)

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ چغلی کھانا یعنی ادھر کی بات ادھر لگا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا۔ ⑤ تہمت لگانا یعنی جو عیب کسی میں نہ ہو وہ اس کی طرف منسوب کرنا ⑥ دھوکہ دینا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ⑧ آدمی توفیق طاعت اور نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے ⑨ زندگی گھٹتی ہے اور زندگی کی برکت نکل جاتی ہے ⑩ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہو جاتا ہے جس سے گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے اور چھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑧ مالی نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اور نعم البدل مل جاتا ہے ⑨ نیک کام میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے ⑩ دل میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے جس کی لذت کے سامنے سلطنت ہفت اقلیم کی راحت بیچ ہے۔

سبق نمبر (۱۱)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز میں الشَّيْطَانِ شَيْطَانٍ سے الرَّجِيمِ مُرْدُودٍ ، بِسْمِ اللّٰهِ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔

② نماز کی سنتیں ⑨ درمیانی تین انگلیوں کو کھال کی پشت پر رکھنا (مردوں کے لیے) ⑩ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا (مردوں کے لیے) ⑪ ثنا یعنی سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ پڑھنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ⑨ تہمت لگانا یعنی جو عیب کسی میں نہ ہو وہ اس کی طرف منسوب کرنا ⑩ دھوکہ دینا ⑪ عار دلانا یعنی کسی کو اس کے کسی گناہ یا خطا کو یاد دلا کر شرمندہ کرنا حالانکہ وہ اس سے توبہ کر چکا ہے۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ⑨ زندگی گھنٹی ہے اور اس کی برکت نکل جاتی ہے ⑩ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہو جاتا ہے جس سے گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے اور پھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے ⑪ توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے یہاں تک بالکل توفیق ہی نہیں ہوتی اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑨ نیک کام میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے ⑩ دل میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے ⑪ طاعت کی برکت سے اس شخص کی اولاد تک کو نفع پہنچتا ہے۔

سبق نمبر (۱۲)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز الرَّجِيْبُ مردود، بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰہ کے نام سے شروع کرتا ہوں
الرَّحْمٰن جو بڑا مہربان، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰن کے معنی ہوئے اللّٰہ کے نام سے شروع کرتا
ہوں جو بڑا مہربان ہے۔

② نماز کی سنتیں ⑩ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ⑪ ثنار پڑھنا۔۔۔ یہاں سے
قہرت کی سنتیں شروع ہوتی ہیں جو سات ہیں: $\frac{1}{11}$ تَعُوْذُ يَعْنِيْ اَعُوْذُ بِاَللّٰهِ مِنَ
الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْبِ پڑھنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے
نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس
پر فضل فرمائیں) ⑩ دھوکہ دینا ⑪ عار دلانا یعنی کسی کو کسی پچھلے گناہ پر شرمندہ کرنا
حالانکہ وہ توبہ کر چکا ہے ⑫ کسی کے نقصان پر خوش ہونا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ⑩ ایک گناہ دوسرے
گناہ کا سبب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے اور چھوڑنا دشوار
ہو جاتا ہے ⑪ توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے حتیٰ کہ بلا توبہ ہی موت آ جاتی ہے ⑫ چند روز
میں اس گناہ کی بُرائی دل سے نکل جاتی ہے یعنی اس کو بُرا نہیں سمجھتا، نہ اس بات کی
پرواہ ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ لے گا بلکہ کھتم کھتا گناہ کرنے لگتا ہے۔ ایسا شخص معافی و مغفرت
سے دور ہو جاتا ہے جو سخت خطرناک حالت ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑩ دل میں سکون و اطمینان پیدا
ہو جاتا ہے ⑪ طاعت کی برکت سے اس شخص کی اولاد تک کو نفع پہنچتا ہے
⑫ زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہوتی ہیں۔ مثلاً اچھا خواب دیکھ لیا جس سے اللہ
تعالیٰ کے ساتھ محبت اور حسن ظن بڑھ گیا جس سے مزید نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے۔

سبق نمبر (۱۳)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز یَسْمِعُ اللهُ اللهُ اللهُ کے نام سے شروع کرتا ہوں الرَّحْمٰنِ جو بڑا

مہربان الرَّحِيْمِ نہایت رحم والا اللهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ کے معنی ہوئے؛ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

② نماز کی سنتیں ① شمار پڑھنا ② تعوذ یعنی اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ

الرَّحِيْمِ پڑھنا ③ تسمیہ یعنی بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ① عارٹ دلانا یعنی کسی کو اس کے پچھلے گناہ پر شرمندہ کرنا ② کسی کے نقصان پر خوش ہونا ③ تکبر کرنا یعنی اپنے کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دُنیا میں پیش آتے ہیں ① توبہ کا ارادہ کمزور ہو جانا

ہے حتیٰ کہ بلا توبہ ہی موت آجاتی ہے ② چند روز میں اس گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے اور کھاتم کھلا گناہ کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے معافی و مغفرت سے دور ہو جاتا ہے ③ چونکہ ہر گناہ دشمنانِ خدا میں سے کسی کی میراث ہے

لہذا یہ شخص ان ملعون قوموں کا وارث بنتا ہے — اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی قوم کی وضع بنائے وہ انھیں ہی شمار ہوگا۔ لہذا توبہ میں دیر نہ کرے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دُنیا میں ملتے ہیں ① طاعت کی برکت سے اس شخص

کی اولاد تک کو نفع پہنچتا ہے ② زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہوتی ہیں مثلاً اچھا خواب دیکھ لیا جس سے اللہ کے ساتھ محبت اور حسن ظن بڑھ گیا جس سے مزید نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے ③ فرشتے مرتے وقت جنت کی اور وہاں کی نعمتوں کی اور حق تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری سناتے ہیں۔

سبق نمبر (۱۴)

نَحْمَدُكَ يَا وَصِيَّيَ عَلَيَّ رَسُولِي الْكَرِيمِ

۱ ترجمہ اذکار نماز الرَّحْمٰنِ جُو بَرَا مَهْرِيَانِ الرَّحْمٰنِ نَهَاتِ رَحْمٍ وَالَا الْحَمْدُ تَعْرِبُ يَفِي

۲ نماز کی سنتیں ۱۳ تعوذ یعنی اَعُوذُ بِاَللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ پڑھنا

۳ تسمیہ یعنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھنا ۱۴ وَلَا الصَّلَاةَ كَيْفَ تَكُنُ کے بعد چپکے سے اَمِيْن کہنا۔

۳ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ۱۲ کسی کے نقصان پر خوش ہونا ۱۳ تکبر کرنا یعنی اپنے کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا ۱۴ فخر کرنا یعنی اپنی بڑائی جتانا۔

۳ گناہ کے نقصانات جو دُنیا میں پیش آتے ہیں ۱۲ چند روز میں اس

گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے اور کھلم کھلا گناہ کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے معافی و مغفرت سے دور ہو جاتا ہے ۱۳ چونکہ ہر گناہ دشمنانِ خدا میں سے کسی کی میراث ہے لہذا یہ شخص ان ملعون قوموں کا وارث بنتا ہے ۱۴ گنہگار آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قدر اور ذلیل و خوار ہو جاتا ہے پس مخلوق میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی چاہے لوگ کس لالچ یا خوف سے بظاہر اس کی تعظیم کریں لیکن کسی کے دل میں اس کی عظمت نہیں رہتی۔

۵ طاعت کے فائدے جو دُنیا میں ملتے ہیں ۱۲ زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب

ہوتی ہیں مثلاً اچھا خواب دیکھ لیا جس سے اللہ کے ساتھ محبت اور حسن ظن بڑھ گیا جس سے مزید نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے ۱۳ فرشتے مرتے وقت جنت کی اور وہاں کی نعمتوں کی اور حق تعالیٰ کی رضا کی خوش خبری سناتے ہیں ۱۴ بعض طاعت کا یہ اثر ہے کہ اگر کسی معاملہ میں تردد ہو اور سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کرنا بہتر ہوگا وہ تردد ختم ہو جاتا ہے اور اسی جانب رائے قائم ہو جاتی ہے جس میں سراسر نفع و خیر ہو۔ نقصان کا احتمال بالکل نہیں رہتا جیسے نماز استخارہ پڑھ کر دعا کرنے سے۔

سبق نمبر (۱۵)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز الرَّحْمٰلِیْمُ نہایت رحم والا، اَلْحَمْدُ سب تعریفیں، اللہ کے لیے خاص ہیں۔

② نماز کی سنتیں ۱۱۲ تسمیہ یعنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنا ۱۳ چپکے سے

اُمین کہنا ۱۴ فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ زلزال سے سورہ ناس تک کی سورتیں پڑھنا (مراقی الفلاح)

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ تکبر کرنا یعنی اپنے کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا ⑤ فخر کرنا یعنی اپنی بڑائی جتاننا ⑥ باوجود قدرت کے ضرورت کی مدد نہ کرنا۔

③ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ④ چونکہ ہر گناہ دشمنان

فدا میں سے کسی کی میراث ہے لہذا یہ شخص ان ملعون قوموں کا وارث بنتا ہے ⑤ گنہگار آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قدر اور ذلیل و خوار ہو جاتا ہے پھر مخلوق میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی ⑥ گناہ کی نحوست نہ صرف گنہگار کو پہنچتی ہے بلکہ اس کا ضرر دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے حتیٰ کہ جانور تک اس پر لعنت کرتے ہیں۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ فرشتے مرتے وقت جنت کی

اور وہاں کی نعمتوں کی اور حق تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری سناتے ہیں ⑦ بعض طاعت کا یہ اثر ہے کہ اگر کسی کام میں تردد ہو اور سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کرنا بہتر ہو گا وہ تردد ختم ہو جاتا ہے جیسے نماز استخارہ پڑھ کر دعا کرنے سے۔

⑧ بعض طاعات میں یہ اثر ہے کہ اس سے تمام کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں جیسے کہ حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم! تو میرے لیے شروع دن میں چار رکعت پڑھ لیا کر میں ختم دن تک تیرے سارے کام بنا دیا کروں گا۔ (ترمذی شریف)

سبق نمبر (۱۶)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

(۱) ترجمہ اذکار نماز الحمد سب تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں سب پانے والا۔

(۲) نماز کی سنتیں ۳۳ چکے سے امین کہنا ۱۵ فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ

حجرات سے سورہ بروج تک بھصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ زلزال سے سورہ ناس تک کی سورتیں پڑھنا ۱۴ فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا یعنی دوسری رکعت پہلی سے پونی ہو یا آدمی۔

(۳) بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر

فضل فرمائیں) (۱۴) فخر کرنا یعنی اپنی بڑائی جتانا (۱۵) باوجود قدرت کے حاجت مند

کی مدد نہ کرنا (۱۶) کسی کے مال کا نقصان کرنا۔

(۳) گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں (۱۴) گنہگار آدمی اللہ تعالیٰ

کے نزدیک بے قدر اور ذلیل و خوار ہو جاتا ہے پھر مخلوق میں بھی اس کی عزت

نہیں رہتی (۱۵) گناہ کی نحوست نہ صرف گنہگار کو پہنچتی ہے بلکہ اس کا ضرر

دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے حتیٰ کہ جانور تک اس پر لعنت کرتے ہیں۔

(۱۶) گناہ کرنے سے عقل میں فتور اور کمی آجاتی ہے بلکہ گناہ کرنا خود کم عقلی کی

دلیل ہے کیونکہ اگر اس کی عقل ٹھکانے ہوتی تو ایسے صاحب قدرت اور دونوں

جہان کے مالک کی نافرمانی نہ کرتا اور گناہ کی ذرا سی لذت پر دنیا اور آخرت کے

منافع کو ضائع نہ کرتا۔

(۵) طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں (۱۴) بعض طاعات کا یہ اثر ہے کہ اگر

کسی کام میں تردد ہو اور سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کیا کرنا بہتر ہوگا تو وہ تردد ختم ہو جاتا ہے

جیسے نماز استخارہ پڑھ کر دُعا کرنے سے (۱۵) بعض طاعات میں یہ اثر ہے کہ اس سے

تمام کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں جیسے شروع دن میں چار رکعت نفل

پڑھنے کی یہ فضیلت حدیث قدسی میں وارد ہے (۱۶) بعض نیکیوں میں یہ اثر ہے

کہ مال میں برکت ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بیچنے والے اور

خریدنے والے سچ بولیں اور اپنے مال کی حالت ظاہر کر دیں تو دونوں کے لیے ان

کے معاملہ میں برکت ہوتی ہے۔ (بخاری و مسلم)

سبق نمبر (۱۷)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ يَا كَرِيمُ

① ترجمہ اذکار نماز: اللہ اللہ کے لیے خاص ہیں ساری پانے والا العالمین ہر ہر عالم کا، الحمد للہ ساری العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں جو پانے والا ہے ہر ہر عالم کا۔

② نماز کی مستثنیٰ ۱۵ قرأت مسنونہ یعنی فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ زلزال سے سورہ ناس تک کی سورتوں میں سے پڑھنا ۱۵ فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا یعنی دوسری رکعت پہلی سے پونی یا آدھی ہو کر ۱۵ قرآن زیادہ جلدی پڑھنا زیادہ ٹھہر کر بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں ①۵ باوجود قدرت کے حالت مندی مدد نہ کرنا ①۶ کسی کے مال کا نقصان کرنا ①۷ کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ①۵ گناہ کی نحوست نہ صرف گنہگار کو پہنچتی ہے بلکہ اس کا ضرر دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے حتیٰ کہ جانور تک اس پر لعنت کرتے ہیں

①۶ عناہ کرنے سے عقل میں فتور اور کمی آجاتی ہے بلکہ گناہ کرنا خود کم عقلی کی دلیل ہے کیونکہ اگر اس کی عقل ٹھکانے ہوتی تو ایسے صاحب قدرت اور دونوں جہان کے مالک کی نافرمانی نہ کرتا اور گناہ کی ذرا سی لذت پر دنیا و آخرت کے منافع کو ضائع نہ کرتا ①۷ گنہگار شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے مثلاً سو دینے والے پر دینے والے پر اس کے لکھنے والے پر اس کے گواہ پر اور لعنت فرمائی ہے جو ریر اور تصویر بنانے والے پر اور قوم لوط کا عمل کرنے والے پر اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا کہنے والے پر وغیرہ وغیرہ۔ اگر گناہ میں کوئی اور نقصان نہ بھی ہوتا تو یہ کیا تصور نقصان ہے کہ حضور رحمة اللعالمین کی لعنت میں داخل ہو گیا۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ①۵ بعض طاعات میں یہ اثر ہے کہ اس سے

تمام کاموں کی ذمہ داری اللہ لے لیتے ہیں جیسے شرف دن میں چار رکعت نفل پڑھنے کی تفصیلت حدیث قدسی میں وارد ہے ①۶ بعض نیکیوں میں یہ اثر ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بیچنے والے اور خریدنے والے سچ بولیں اور اپنے مال کی حالت ظاہر کر دیں تو دونوں کے لیے ان کے معاملہ میں برکت ہوتی ہے (بخاری و مسلم) ①۷ دینداری سے حکومت و سلطنت باقی رہتی ہے۔

سبق نمبر (۱۸)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز بہت پالنے والا، العالیین ہر ہر عالم کا، الرحمن جو بڑا مہربان۔

② نماز کی سنتیں ۱۶ فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا۔ یعنی دوسری رکعت

پہلی سے پہلوی ہو یا آدھی ۱۶ نہ زیادہ جلدی پڑھنا نہ زیادہ ٹھہر کر بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا ۱۸ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر

فضل فرمائیں) ④ کسی کے مال کا نقصان کرنا ⑤ کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا

⑥ چھوٹوں پر رحم نہ کرنا۔

⑦ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ⑧ گناہ سے عقل میں فتور

اور کسی آجاتی ہے بلکہ گناہ کرنا خود کم عقلی کی دلیل ہے کیونکہ اگر اس کی عقل ٹھکانے ہوتی تو ایسے صاحب

قدر اور دونوں جہان کے مالک کی نافرمانی نہ کرتا اور گناہ کی ذرا سی لذت پر دنیا و آخرت کے منافع

کو ضائع نہ کرتا ⑨ گنہگار شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ

آپ نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے مثلاً سو لینے والے پر، دینے والے پر، اس کے کھینے

والے پر، اس کے گواہ پر، اور لعنت فرمائی ہے جو پر اور تصویر بنانے والے پر اور قوم کو طوطا کا عمل کرنے

والے پر اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا کہنے والے پر وغیرہ وغیرہ ⑩ گنہگار آدمی فرشتوں کی دعا سے

محروم ہو جاتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ فرشتے ان مومنوں کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں جو

اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے ہیں پس جس نے گناہ کر کے وہ راہ چھوڑ دی وہ اس دولت کا کہاں مستحق رہا۔

⑪ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑫ بعض نیکیوں میں یہ اثر ہے کہ مال

میں برکت ہوتی ہے جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بچنے والے اور خریدنے والے سچ بولیں

اور اپنے مال کی حالت ظاہر کر دیں تو دونوں کے لیے ان کے معاملہ میں برکت ہوتی ہے (بخاری و مسلم)

⑬ دینداری سے حکومت و سلطنت باقی رہتی ہے ⑭ بعض مالی عبادات سے اللہ تعالیٰ کا

غصہ بھگتا ہے اور بُری حالت پر موت نہیں آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ

پروردگار کے غصہ کو بھگاتا ہے اور بُری موت سے بچاتا ہے۔ (ترمذی)

سبق نمبر (۱۹)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْكَ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز العَالَمِيْنَ ہر ہر عالم کا اللّٰحَمِيْنَ جو بڑا مہربان الرَّحِيْمُ نہایت رحم والا۔

② نماز کی سنتیں $\frac{7}{12}$ نہ زیادہ جلدی پڑھنا نہ زیادہ ٹھہر کر بلکہ درمیان رفتار سے

پڑھنا $\frac{1}{18}$ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔
اب رکوع کی سنتیں شروع ہوتی ہیں: $\frac{1}{14}$ رکوع کی تکبیر کہنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اذرا ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں ⑭ کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا ⑮ چھوٹوں پر رحم کرنا ⑯ بڑوں کی عزت نہ کرنا۔

③ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ⑭ گنہگار شخص رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے مثلاً سود لینے والے پر، دینے والے پر، اس کے لکھنے والے پر اس کے گواہ پر، اور لعنت فرمائی

فرمائی ہے چور پر اور تصویر بنانے والے پر اور قوم لوط کا عمل کرنے والے پر اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا کہنے والے پر وغیرہ وغیرہ ⑮ گنہگار شخص فرشتوں کی

دُعا سے محروم ہو جاتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ فرشتے اَنْ مَوْمِنُوْنَ کے لیے دعا و مغفرت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بستان، ہوئی راہ پر چلتے ہیں، پس جس

نے گناہ کر کے وہ راہ چھوڑ دی وہ اس دولت کا کہاں مستحق رہا ⑯ طرح طرح کی خرابیاں زمین میں پیدا ہوتی ہیں۔ پانی، ہوا، غلہ، پھل ناقص ہو جاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ روز بروز جو بے برکتی بڑھتی جاتی ہے یہ ہمارے گناہوں کا ثمرہ ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑭ دینداری سے حکومت سلطنت

باقی رہتی ہے ⑮ بعض مالی عبادات سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بگھتا ہے اور بُری حالت پر موت نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

صدقہ پروردگار کے غصہ کو بگھاتا ہے اور بُری موت سے بچاتا ہے۔ (ترمذی)

⑯ دعا ہے بلا ملتی ہے اور نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نہیں ہشاقی قضاء کو مگر دعا، اور نہیں بڑھاقی عمر کو مگر نیکی۔ (ترمذی)

سبق نمبر (۲۰)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز
الْحَمْدُ لَكَ يَا مَلِكُ جُو مَلِكُ ہے۔

② نماز کی مستثنیٰ
۱۸ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ۱/۴ رکوع کی تکبیر کہنا ۱/۲ دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا (مردوں کے لیے)

③ بڑے بڑے گناہ
جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ①۸ چھوٹوں پر رحم نہ کرنا ①۹ بڑوں کی عزت نہ کرنا ②۰ بھوکوں اور محتاجوں کی حیثیت کے موافق مدد نہ کرنا۔

④ گناہ کے نقصانات
جو دنیا میں پیش آتے ہیں ①۸ گنہگار شخص فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ فرشتے ان مومنوں کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں جو اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے ہیں، پس جس نے گناہ کر کے وہ راہ چھوڑ دی وہ اس دولت کا کہاں مستحق رہا ①۹ طرح طرح کی خرابیاں زمین میں پیدا ہوتی ہیں، پانی، ہوا، غلہ، پھل ناقص ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ روز بروز جو بے برکتی بڑھتی جاتی ہے یہ ہمارے گناہوں کا ثمرہ ہے ②۰ شرم و حیا جاتی رہتی ہے اور جب شرم نہیں رہتی تو آدمی جو کچھ کر گذرے تھوڑا ہے۔

⑤ شاعت کے فائدے
جو دنیا میں ملتے ہیں ①۸ بعض مالی عبادات سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بگھتا ہے اور بُری حالت پر موت نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ پروردگار کے غصہ کو بگھاتا ہے اور بُری موت سے بچاتا ہے۔ (ترمذی) ①۹ دعا سے بلا طمّتی ہے اور نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نہیں ہٹاتی قضا کو مگر دعا اور نہیں بڑھاتی عمر کو مگر نیکی۔ (ترمذی) ②۰ سورہ نسیں پڑھنے سے تمام کام بن جاتے ہیں — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص شروع دن میں سورہ نسیں پڑھے اس کی تمام حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ (داری)

سبق نمبر (۲۱)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز الرَّحْمَةُ نِهَابِتِ رَحْمِ وَالِا، مَلِكِ جِو مَالِكِ هِے، يَعْدَمُ الدِّينِ رِوِزِ جِزَارِ مَلِكِ يَعْدَمُ الدِّينِ جِو مَالِكِ هِے رِوِزِ جِزَارِ كَا.

② نماز کی سنتیں $\frac{1}{19}$ رکوع کی تکبیر کہنا $\frac{1}{19}$ دونوں ہاتھوں سے گھنٹوں کو پکڑنا (مردوں کے لیے) $\frac{2}{11}$ گھنٹوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا (مردوں کے لیے)

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر کوہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ بڑوں کی عزت نہ کرنا ⑤ کون اور محتاجوں کی حیثیت کے موافق مدد نہ کرنا ⑥ کسی دنیوی رنج کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا

⑦ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ⑧ طرح طرح کی خرابیاں زمین میں پیدا ہونے والی، بانی، ہوا، غلہ، پھل، ناقص ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ روز بروز بے ہوشی میں آتے ہیں۔ یہ ہمارے گناہوں کا ثمرہ ہے ⑨ شرم و حیا جاتی رہتی ہے۔ یہاں رہتی تو آدمی جو کچھ کر گزرے تھوڑا ہے ⑩ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکل جاتی ہے۔ جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی عزت نہیں رہتی، پھر یہ شخص لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔

⑪ ظاہریت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑫ دعا سے بنا مٹتی ہے اور نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نہیں ہٹاتی قضاء کو مگر دعا اور نہیں بڑھاتی عمر کو مگر نیکی۔ (ترمذی) ⑬ سورہ یسین پڑھنے سے تمام کام بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص شروع دن میں سورہ یسین پڑھے اس کی تمام حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ (دارمی) ⑭ سورہ واقع پڑھنے سے فاقہ نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر ایک میں سورہ فاقہ پھا کرے اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ (شب الزمان)

سبق نمبر (۲۲)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز: مُلْكٌ جو مالک ہے بِقَامِ الدِّينِ روزِ جَزَاءِ اِنَّاكَ آپ ہی کی۔

② نماز کی سنتیں: پڑھ دو نون ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا (مردوں کے لیے)

پڑھ گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا (مردوں کے لیے) پڑھ رکوع میں پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا۔

③ بڑے بڑے گناہ: جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر

فضل فرمائیں) ④ بھوکوں اور محتاجوں کی حیثیت کے موافق مدد نہ کرنا ⑤ کسی

دنیوی رنج کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا

⑥ کسی جاندار کی تصویر بنانا۔

⑦ گناہ کے نقصانات: جو دُنیا میں پیش آتے ہیں ⑧ شرم و حیا جاتی رہتی

ہے اور جب شرم نہیں رہتی تو آدمی جو کچھ کر گزرے تھوڑا ہے ⑨ اللہ تعالیٰ کی عظمت

دل سے نکل جاتی ہے۔ جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں رہتی تو

اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی عزت نہیں رہتی، پھر یہ شخص لوگوں کی نظروں میں

ذلیل و خوار ہو جاتا ہے ⑩ نعمتیں چھن جاتی ہیں، بلاؤں اور مصیبتوں کا جوم ہوتا

ہے۔ بعض گنہگار جو بڑے عیش میں نظر آتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے

ڈھیل ہے اور ایسا شخص اور بھی زیادہ خطرہ میں ہے کیونکہ جب یہ پکڑ میں

آئیں گے تو دُنیا یا آخرت میں اکٹھی سزا دی جائے گی۔

⑪ ناعت کے فائدے: جو دُنیا میں ملتے ہیں ⑫ سورۃ یسین پڑھنے سے تمام کام بن

جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص شروع دن میں سورۃ یسین پڑھے

اس کی تمام حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ (دارمی) ⑬ سورۃ واقعہ پڑھنے سے فاقہ نہیں ہوتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورۃ واقعہ پڑھا کرے اس کو کبھی فاقہ نہیں

پہنچے گا۔ (شب الایمان) ⑭ ایمان کی برکت سے تھوڑے کھانے میں آسودگی ہو جاتی ہے۔ ایک

شخص کھانا بہت کھایا کرتا تھا پھر وہ مسلمان ہو گیا تو تھوڑا کھانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنت میں۔ (بخاری)

سبق نمبر (۲۳)

وَحَمْدُهُ وَتَصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

① **ترجمہ اذکار نماز** قدم الدین روزِ جزاء، اِنَّاكَ اَپ ہی کی، نَعْبُدُ ہم عبادت کرتے ہیں۔ اِنَّاكَ نَعْبُدُ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔

② **نماز کی سنتیں** ۳۱ گھنٹوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو گشادہ رکھنا (مردوں کے لیے) ۳۲ رکوع میں پندرہ ٹیوں کو سیدھا رکھنا ۳۳ پیٹھ کو بچھا دینا (مردوں کے لیے)

③ **بڑے بڑے گناہ** جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر

فضل فرمائیں) ④ کسی دنیوی رنج کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا ⑤ کسی جاندار کی تصویر بنانا ⑥ کسی کی زمین پر موروثی کا دعویٰ کرنا۔

⑦ **گناہ کے نقصانات** جو دنیا میں پیش آتے ہیں ⑧ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے، جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی

عزت نہیں رہتی پھر یہ شخص لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے ⑨ نعمتیں چھن جاتی ہیں، بلاؤں اور مصیبتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ بعض گنہگار جو بڑے عیش میں نظر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ

کی طرف سے ڈھیل ہے اور ایسا شخص اور بھی زیادہ خطرہ میں ہے کیونکہ جب یہ پکڑ میں آئیں گے تو دنیا یا آخرت میں کبھی سزا دی جائے گی ⑩ گناہ کرنے سے عزت و شرافت کے القاب چھن کر

ذلت و رسوائی کے خطاب ملتے ہیں۔ مثلاً نیکی کرنے سے جو شخص نیک و فرماں بردار تہجد گزار کہلاتا ہے اگر خدا نخواستہ گناہ کرنے لگا تو اب وہی شخص فاسق، فاجر زانی، ظالم وغیرہ کہا جاتا ہے۔

⑪ **طاعت کے فائدے** جو دنیا میں ملتے ہیں ⑫ سورۃ واقعہ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورۃ واقعہ پڑھا کرے اس کو کبھی فائدہ نہیں پہنچے گا (شعب الایمان) ⑬ ایمان کی برکت سے چھوٹے کھانے میں آسودگی ہوتی ہے۔ ایک شخص کھانا بہت کھایا کرتا تھا پھر وہ

مسلمان ہو گیا تو تھوڑا کھانے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافرات آنت میں (بخاری) ⑭ بعض دعاؤں کی یہ برکت ہے کہ بیماریاں نکلنے اور مصیبت آنے کا خوف نہیں رہتا۔

جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مریض یا مبتلائے مصیبت کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے :
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الْكِنِّي عَافَانِي مِمَّا تَلَاكَ بِهِ فَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا
 تو وہ مصیبت ہرگز اس شخص کو نہ پہنچے گی۔ نوٹ: یہ دعا ماہر پڑھے تاکہ مبتلائے مصیبت کو ازیت نہ ہو۔

سبق نمبر (۲۴)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز اِنَّاكَ اَبَّ هِي كِي، قَبْلُنَا هِم عِبَادَت كَرْتِي هِي، وَ اِنَّاكَ كَسْتَعِينُ اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔

② نماز کی سنتیں ۲۲ رکوع میں پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا ۲۵ پیٹھ کو پکھادینا (مردوں کے لیے) ۲۱ رکوع میں سر اور سرین کو برابر رکھنا (مردوں کے لیے)۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گزرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ کسی جاندار کی تصویر بنانا ⑤ کسی کی زمین پر موروثی کا دعویٰ کرنا ⑥ خوب تندرست ہٹا کٹا ہونے کے باوجود بھیک مانگنا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ⑤ نصیحتیں چھین جاتی ہیں، بلاؤں اور مصیبتوں کا هجوم ہوتا ہے۔ بعض گنہگار جو بڑے عیش میں نظر آتے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے ڈھیل ہے اور ایسا شخص اور بھی خطرہ میں ہے کیونکہ جب یہ پکڑ میں آئیں گے تو دنیا یا آخرت میں کٹھی سزا دی جائے گی ⑥ عزت و شرافت کے القاب چھین کر وقت و سوائے کے خطاب ملتے ہیں مثلاً کسی کرنے سے جو شخص نیکے فرماں بردار ہو کر گزارا کہلاتا ہے اگر خدا نخواستہ گناہ کرنے لگا تو اب وہی شخص فاسق، فاجر، زانی، ظالم وغیرہ کہلاتا ہے ⑦ شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں اور آسانی اس کے اعضا کو گناہوں میں غرق کر دیتے ہیں

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ ایمان کی برکت تھوڑے کھانے میں آسودگی ہوا ہوتی ہے۔ ایک شخص کھانا بہت کھایا کرتا تھا پھر مسلمان ہو گیا تو کم کھانے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنت میں (بخاری) ⑦ بعض دعاؤں کی یہ برکت ہے کہ بیماری لگنے اور مصیبت آنے کا خوف نہیں رہتا، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مریض یا مبتلائے مصیبت کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِيْهِ وَ هَضَّبَنِيْ عَلٰى كَيْدِيْهِ فَمَنْ عَاقَبْتَهُ لَكَ فِضْلًا تُوُوْهُ مِصِيْبَتِ بَرِّزَانِ شَخْصِ كُوْنُوْهُ پُھچے گی۔ نوٹ: یہ دعا آہستہ سے پڑھے تاکہ مبتلائے مصیبت کو ازیت نہ ہو ⑧ بعض دعاؤں میں یہ برکت ہے کہ فکریں ناکمل ہو جاتی ہیں اور قرض ادا ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں یہ دعا ہمالی گئی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَ الْكَسَلِ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدُّنْيَا وَقَهْرِ الرِّجَالِ

سبق نمبر (۲۵)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

۱ ترجمہ اذکار نماز
تعبداً ہم عبادت کرتے ہیں، وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اٰهْدِنَا بِلَدَارِكَ ہم کو۔

۲ نماز کی سنتیں
۵ رکوع میں پیٹھ کو بچھا دینا (مردوں کے لیے) ۳ رکوع میں سر اور سرین کو برابر رکھنا (مردوں کے لیے) ۵ رکوع میں کم سے کم تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ پڑھنا۔

۳ بڑے بڑے گناہ
جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اور سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ۳۳ کسی کی زمین پر موروثی کا دعویٰ کرنا ۳۴ خوب تندرست ہشاشمٹ ہونے کے باوجود بھیک مانگنا ۳۵ ڈاڑھی منڈوانا یا ایک مشت سے کم پر کترانا۔

۴ گناہ کے نقصانات
جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۳ عزت شرافت العاقب چھک زلت رسوائی کے خطاب ملتے ہیں، مثلاً نیکی کرنے سے جو شخص نیک فرماں بردار تہجد گزار کہلاتا ہے اگر خدا نخواستہ گناہ کرنے لگا تو اب وہی شخص فاسق، فاجر، زانی، ظالم وغیرہ کہلاتا ہے ۳۳ شاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں اور باآسانی اس کے اعضایہ کو گناہوں میں ملوث کر دیتے ہیں ۳۵ دل کا اطمینان جانا رہتا ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کہیں عزت نہ جاتی رہے، کوئی بدلہ نہ لینے لگے وغیرہ۔ اس سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔

۵ نجات کے فائدے
جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۳ بعض دعاؤں میں یہ برکت ہے کہ بیماری لگنے اور مصیبت آنے کا خوف نہیں رہتا، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مریض یا مبتلائے مصیبت کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا اَسْلَاكَ يَهْدِيْ وَ قَضَانِيْ عَمَلِيْ كَثِيْرًا مِّنْ خَلْقٍ تَفَضَّلَا تُرْوِهْ مَصِيْبَتِ هَرِّكَاسِ شَخْصٍ كُوْنَتْ يَسْتَعِيْنُ لِيْ۔ نوٹ: یہ دعا آہستہ پڑھے تاکہ مبتلائے مصیبت کو ازیت نہ ہو ۱۳ بعض دعاؤں میں یہ برکت ہے کہ فکریں زائل ہو جاتی ہیں اور قرض ادا ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں یہ دعا بتائی گئی ہے: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَجْرِ وَالْحُرْمِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْاَعْوَادِ بِكَ مِنَ الْبَخْلِ وَالنَّجْبِ وَالْحَبْلِ وَالْحَبْلِ وَالْحَبْلِ مِنَ غَلْبَةِ الدِّينِ وَ قَهْرِ الرِّجَالِ۔ بعض دعاؤں میں یہ ہے کہ مخلوق کے ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے، جیسے کہ سورۃ اٹلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس اور شامین میں بار پڑھنے سے ہر شر سے حفاظت کا حدیث پاک میں وارد ہے۔

سبق نمبر (۲۶)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز
وَاِيَّاكَ كَسْتَعِيْنُ اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اہلینا
بتلا دیجیے ہم کو العزاکا راستہ۔

② نماز کی سنتیں
پہ رکوع میں سر اور سرین کو برابر رکھنا مردوں کے لیے
۶ رکوع میں کم سے کم تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ پڑھنا پہ رکوع سے اٹھتے
وقت امام کو تسبیح یعنی سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اور مقتدی کو صرف رَبَّنَا لَكَ
الْحَمْدُ اور منفرد کو دونوں کہنا۔

③ بڑے بڑے گناہ
جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے
نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر
فضل فرمائیں) ④ خوب تندرست ہٹا کر ہونے کے باوجود بھیک مانگنا ⑤ ڈاڑھی
منڈوانا یا ایک مشت سے کم پر کتر وانا ⑥ کافروں اور فاسقوں کا لباس پہننا۔

④ گناہ کے نقصانات
جو دنیا میں پیش آتے ہیں ④ شیاطین اس پر مسلط
ہو جاتے ہیں اور آسانی اس کے اعضاء کو گناہوں میں غرق کر دیتے ہیں ⑤ دل کا اطمینان
جانا رہتا ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کہیں عزت نہ جاتی رہے، کوئی بدلہ
نہ لینے لگے وغیرہ۔ اس سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے ⑥ گناہ کرتے کرتے وہی گناہ دل میں
بس جاتا ہے یہاں تک کہ مرتے وقت کلمہ تک منہ سے نہیں نکلتا بلکہ زندگی میں جو افعال
کرنا تھا وہی سرزد ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک ماٹھے والا آخری وقت میں پیسہ مانگتا ہوا مر گیا اور
ایک گنہگار کو کلمہ پڑھانے لگے تو اس نے کہا کہ یہ میرے منہ سے نہیں نکلتا اور مر گیا۔ نعوذ باللہ!

⑤ طاعت کے فائدے
جو دنیا میں ملتے ہیں ④ بعض دعاؤں میں یہ برکت ہے
کہ فکر س زائل ہو جاتی ہیں اور قرض ادا ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں یہ دعا بتائی گئی ہے
اللَّهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَالْحَزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ
بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجَبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ تَغْلِبَةِ الدِّينِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ ⑤ بعض دعا
ایسی ہے کہ مخلوق کے ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے جیسے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس صبح و شام
تین تین بار پڑھنے سے ہر شر سے حفاظت کا حدیث پاک میں وارد ہے ⑥ بعض طاعات سے حاجت
روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔

سبق نمبر (۲۷)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

(۱) ترجمہ اذکار نماز اِقْدِنَا بِنَلَا رِيحِيهِ بِمَكُو، اَلْقِرْطَا رَاسْتَه، الْمُسْتَقِيمَه

سیدھا، اِقْدِنَا الْقِرْطَا الْمُسْتَقِيمَه بِنَلَا رِيحِيهِ بِمَكُو سیدھا راستہ۔

(۲) نماز کی سنتیں ۱۰ رکوع میں کم سے کم تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

پڑھنا ۱۰ رکوع سے اٹھتے وقت امام کو سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اور مقتدی کو صرف رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اور منفرد کو دونوں کہنا۔ یہاں سے سجدہ کی سنتیں شروع ہوتی ہیں ۱۰ سجدہ کی تکبیر کہنا۔

(۳) بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اور سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس

پر فضل فرمائیں) (۲۵) ڈاڑھی منڈوانا یا ایک مشت سے کم پر کترونا۔

(۲۶) کافروں اور فاسقوں کا لباس پہننا (۲۷) مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا۔

(۳) گناہ کے نقصانات جو دُنیا میں پیش آتے ہیں (۲۵) دل کا اطمینان جاتا رہتا

ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کہیں عزت نہ جاتی رہے، کوئی بدلہ نہ لیٹے لگے

وغیرہ۔ اس سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے (۲۶) گناہ کرتے کرتے وہی گناہ دل میں بس جاتا ہے

یہاں تک کہ مرتے وقت کلمہ تک منہ سے نہیں نکلتا بلکہ زندگی میں جو افعال کرتا تھا وہی

سرزد ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک مانگنے والا آخری وقت پیسہ مانگتا ہوا مر گیا اور ایک گنہگار کو کلمہ

پڑھانے لگے تو اس نے کہا کہ یہ میرے منہ سے نہیں نکلتا اور مر گیا۔ العیاذ باللہ! (۲۷) اللہ تعالیٰ کی رحمت

سے ناامیدی ہو جاتی ہے اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا اور بے توبہ مرتے کسی شخص کو کلمہ کی تلقین

کی گئی تو کہا: اس کلمہ سے کیا ہوگا میں نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی اور مر گیا اللہ پناہ میں رکھے۔

(۵) طاعت کے فائدے جو دُنیا میں ملتے ہیں (۲۵) بعض دعاء ایسی ہے کہ مخلوق کے

ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے جیسے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس صبح و شام تین تین بار

پڑھنے سے ہر شر سے حفاظت کا حدیث پاک میں وعدہ ہے (۲۶) بعض طاعات سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعاء مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں (۲۷) ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے۔

سبق نمبر (۲۸)

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

① تہجدہ اذکار نماز

② نماز کی سنتیں

۸۶ رکوع سے اٹھتے وقت امام کو سیمۃ اللہ لیمان حیداً اور مقتدی صرف رَبَّنَا لَکَ الْحَمْدُ اور منفرد کو دونوں کہنا۔ اب سجدہ کی سنتیں شروع ہوتی ہیں: ۱/۴ سجدہ کی تکبیر کہنا ۱/۲۸ سجدہ میں پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گزاریے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ کافروں اور فاسقوں کا لباس پہننا ⑤ مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا ⑥ عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا۔

③ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ④ گناہ کرنے کرنے وہی گناہ دل میں بس جاتا ہے یہاں تک کہ مرتے وقت کلمہ تک منہ سے نہیں نکلتا بلکہ زندگی میں جو افعال کرتا تھا وہی سبز دہوتے ہیں۔ مثلاً ایک مانگنے والا آخری وقت پیسہ مانگتا ہوا مر گیا اور ایک گنہگار کو کلمہ پڑھانے لگے تو اس نے کہا کہ یہ میرے منہ سے نہیں نکلتا اور مر گیا۔

⑤ العیاذ باللہ ⑥ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی ہو جاتی ہے اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا اور بے توبہ مرتا ہے۔ کسی شخص کو کلمہ کی تلقین کی گئی تو کہا: اس کلمہ سے کیا ہوگا میں نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی اور مر گیا۔ اللہ پناہ میں رکھے ⑦ گناہ کرنے سے دل پر ایک سیاہ دھبہ لگ جاتا ہے جو توبہ سے مٹ جاتا ہے ورنہ بڑھتا ہی رہتا ہے جس سے قبول حق کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ بعض طاعات سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی ہر حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں ⑦ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے ⑧ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ بعض طاعات سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی ہر حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں ⑦ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے ⑧ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ بعض طاعات سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی ہر حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں ⑦ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے ⑧ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ بعض طاعات سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی ہر حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں ⑦ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے ⑧ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ بعض طاعات سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی ہر حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں ⑦ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے ⑧ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ بعض طاعات سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی ہر حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں ⑦ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے ⑧ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ بعض طاعات سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی ہر حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں ⑦ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے ⑧ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ بعض طاعات سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی ہر حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں ⑦ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے ⑧ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ بعض طاعات سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی ہر حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں ⑦ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے ⑧ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ بعض طاعات سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی ہر حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں ⑦ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے ⑧ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ بعض طاعات سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی ہر حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں ⑦ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے ⑧ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ بعض طاعات سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی ہر حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں ⑦ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے ⑧ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ بعض طاعات سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی ہر حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں ⑦ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے ⑧ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ بعض طاعات سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی ہر حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں ⑦ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے ⑧ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ بعض طاعات سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی ہر حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں ⑦ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے ⑧ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔

سبق نمبر (۲۹)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

۱) ترجمہ اذکار نماز: الْمُسْتَقْتَمِدَّ سَيِّدَهَا، وَرَأَاظَ الذَّيْنِ رَاسَةً ان لوگوں کا، اَنْعَمْتَ اَبَّ نَے انعام فرمایا۔

۲) نماز کی سنتیں: $\frac{1}{2}$ سجدہ کی تکبیر کہنا $\frac{1}{8}$ سجدہ میں پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھنا $\frac{1}{4}$ پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا۔

۳) بڑے بڑے گناہ: جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ۲۴) مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا ۲۸) عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا ۲۹) زنا یعنی بدکاری کرنا۔

۴) گناہ کے نقصانات: جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۲۴) اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا اسیدی ہو جاتی ہے اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا اور بے توبہ مرتا ہے۔ کسی شخص کو کلمہ کی تلقین کی گئی تو کہا اس کلمہ سے کیا ہوگا میں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی اور مر گیا۔ اللہ پناہ میں رکھے ۲۸) گناہ کرنے سے دل پر ایک سیاہ دھبہ لگ جاتا ہے جو توبہ سے مٹ جاتا ہے ورنہ بڑھتا ہی رہتا ہے جس سے قبول حق کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے ۲۹) گناہ کرنے سے دنیا کی رغبت اور آخرت سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے جس سے دنیائے فانی کے کاموں میں انہماک اور آخرت کے کاموں سے بےزاری ہو جاتی ہے۔

۵) سلامت کے نتائج: جو دنیا میں ملتے ہیں ۲۴) ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے ۲۸) جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو ۲۹) کامل ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سچی عزت عطا فرماتے ہیں۔

سبق نمبر (۳۰)

بِحَمْدِهِ وَتُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

① **ترجمہ اذکار نماز** صراطِ الذینِ راستہ ان لوگوں کا، اَنْعَمْتَ آپ نے انعام فرمایا، عَلَیْهِمْ ان پر، صراطِ الذینِ اَنْعَمْتَ تَلْکَیْهِمْ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔

② **نماز کی سنتیں** $\frac{1}{2}$ سجدہ میں پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھنا $\frac{3}{4}$ پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا $\frac{1}{2}$ پھر ناک رکھنا۔

③ **بڑے بڑے گناہ** جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ②۸ عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا ②۹ زنا یعنی بدکاری کرنا ③۰ چوری کرنا۔

④ **گناہ کے نقصانات** جو دنیا میں پیش آتے ہیں ②۸ گناہ کرنے سے دل پر ایک سیاہ دھبہ لگ جاتا ہے جو توبہ سے مٹ جاتا ہے ورنہ بڑھتا ہی رہتا ہے جس سے قبولِ حق کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے ②۹ گناہ کرنے سے دنیا کی رغبت اور آخرت سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے جس سے دنیائے فانی کے کاموں میں انہماک اور آخرت کے کاموں سے بے زاری ہو جاتی ہے ③۰ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔

⑤ **طاعت کے فائدے** جو دنیا میں ملتے ہیں ②۸ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو ②۹ کامل ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سچی عزت عطا فرماتے ہیں ③۰ ایمان و طاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرمادیتے ہیں۔



سبق نمبر (۳۱)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز اَنْعَمْتَ اَبَ نَے انعام فرمایا، عَلَيْنِهِمْ اِن پْر اَعْتَدِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ذِا سْتِه اِن لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا۔

② نماز کی سنتیں ۲۹ سجدہ میں دونوں ہاتھ زمین پر رکھنا ۲۹ پھر ناک رکھنا ۲۹ پھر پیشانی رکھنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④۹ زنا یعنی بدکاری کرنا ④۰ چوری کرنا ④۱ ڈکیتی ڈالنا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ④۹ گناہ کرنے سے دنیا کی رغبت اور آخرت سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے جس سے دنیائے فانی کے کاموں میں انہماک اور آخرت کے کاموں سے بے زاری ہو جاتی ہے ④۰ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے ④۱ گناہ سے دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ④۹ کامل ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پسمنی عزت عطا فرماتے ہیں ④۰ ایمان و طاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرمادیتے ہیں ④۱ اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور زمین پر اس کو قبولیت عطا کی جاتی ہے۔



سبق نمبر (۳۲)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز عَلَيْنِهِمْ اِنْ پَر، غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ نَه رَاسْتَه اِنْ لُوْغُوْنَ
کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، وَلَا الضَّالِّیْنَ اور نہ راستہ ان لوگوں کا جو رستہ سے
گم ہو گئے یعنی گمراہ ہو گئے۔

② نماز کی سنتیں بِرَّ پھرناک رکھنا ۵ پھرن پشانی رکھنا ۶ دونوں
ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا۔

③ برے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے
نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس
پر فضل فرمائیں) ۳۰ چوری کرنا ۳۱ ذکرتی ڈالنا ۳۲ جھوٹی گواہی دینا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۳۰ اللہ تعالیٰ کا غضب
نازل ہوتا ہے ۳۱ دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے ۳۲ بسا اوقات
طاعت و عبادت کے فائدے ضائع ہو جاتے ہیں۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ۳۰ ایمان و طاعت کی برکت سے
اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرمادیتے ہیں ۳۱ اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس
کی محبت ڈال دیتے ہیں اور زمین پر اس کو مقبولیت عطا کی جاتی ہے ۳۲ نیک عمل
کرنے والے مومنین کے حق میں قرآن پاک ہدایت و شفا ہے۔



سبق نمبر (۳۳)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① **ترجمہ اذکار نماز** عَزَّوَجَلَّ الْعَظُوْبِ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً رَاسَةً اِنْ لَوْغُوْنَ كَا جَنِّ پَرِ اَبِّ كَا غَضَبُ كَمَا لِيَا، وَلَا الصَّلَاةَ الْبَيِّنَةَ اَوْ رَحْمَةً رَاسَةً اِنْ لَوْغُوْنَ كَا جَو رَسْتَهْ سَهْ غَمِّ هُوْنَهْ يَعْصِيْ كَمَا رَاهُ هُوْنَهْ، اَمِيْنُ دَعَا رَقُوْلُ فَرَمَا۔

② **نماز کی سنتیں** ۵ پھر پیشانی رکھنا ۵ دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا ۵ سجدہ میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا (مردوں کے لیے)

③ **بڑے بڑے گناہ** جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ③۱ ڈیکھتی ڈالنا ③۲ جھوٹی گواہی دینا ③۳ یتیم کا مال کھانا۔

④ **گناہ کے نقصانات** جو دنیا میں پیش آتے ہیں ④۱ دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے ④۲ بسا اوقات طاعت و عبادت کے فائدے ضائع ہو جاتے ہیں ④۳ بے شرمی و بے حیائی کے کاموں سے طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں پھیلتی ہیں جو پہلے لوگوں میں نہیں تھیں جیسے کینسر اور ایڈز۔

⑤ **شاعت کے فائدے** جو دنیا میں ملتے ہیں ⑤۱ اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس

کی محبت ڈال دیتے ہیں اور زمین پر اس کو مقبولیت عطا کی جاتی ہے ⑤۲ نیک عمل کرنے والے مومنین کے حق میں قرآن پاک ہدایت و شفاء ہے ⑤۳ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔



سبق نمبر (۳۴)

نَحْمَدُكَ يَا وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز وَلَا الصَّلَاةَ لَيِّنَ اور نہ راستہ ان لوگوں کا جو رستہ سے گم ہو گئے۔

امین دعا قبول فرما۔ قُلْ هُوَ اللهُ اَبَّ كَهْدِيْجُ كِه وَه يَعْنِي اللهُ۔

② نماز کی سنتیں ۶۶ دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا ۱۱۱ سجدہ میں

پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا (مردوں کے لیے) ۱۱۱ پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا (مردوں کے لیے)

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ۳۶ جھوٹی گواہی دینا ۳۳ یتیم کا مال کھانا ۳۲ ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کو تکلیف پہنچانا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۳۲ بسا اوقات طاعت

و عبادت کے فائدے ضائع ہو جاتے ہیں ۳۲ بے شرمی و بے حیائی کے کاموں سے طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں پھیلتی ہیں جو پہلے لوگوں میں نہیں تھیں۔ آج کل جیسے کینسر اور ایڈز ۳۲ زکوٰۃ نہ دینے سے بارش میں کمی ہو جاتی ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ۳۲ نیک عمل کرنے والے مومنین

کے حق میں قرآن پاک ہدایت و شفا ہے ۳۲ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے ۳۲ صراط مستقیم کی صورت مثالی آخرت میں مثل پُل صراط کے ہے، پس جس شخص نے دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت کی یعنی شریعت و سنت کا پابند رہا وہ اس پُل صراط پر صحیح سالم گذر جائے گا۔ پس اگر چاہتے ہو کہ پُل صراط پر پلک جھپٹے گذر جاؤ تو شریعت پر خوب مستقیم رہو۔

سبق نمبر (۳۵)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

۱) زجر اذکار نماز امین دعا قبول فرما، قُلْ هُوَ اللهُ اَبْ کہہ دیجئے کہ وہ

یعنی اللہ احدُ ایک ہے۔

۲) نماز کی سنتیں ۴۳ سجدہ میں پیٹ کورانوں سے الگ رکھنا (مردوں کے لیے)

۴۴ پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا (مردوں کے لیے) ۴۵ کہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا (مردوں کے لیے)۔

۳) بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس

پر فضل فرمائیں) ۴۳ یتیم کا مال کھانا ۴۴ ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور

ان کو تکلیف پہنچانا ۴۵ بے خطا جان کو قتل کرنا یعنی ناحق خون کرنا۔

۴) گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۴۳ بے شرمی و بے حیائی کے

کاموں سے طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں پھیلتی ہیں جو پہلے لوگوں میں نہیں

تھیں۔ آج کل جیسے کینسر اور ایڈز ۴۴ زکوٰۃ نہ دینے سے بارش میں کمی ہو جاتی

ہے ۴۵ ناحق فیصلہ کرنے اور عہد شکنی کرنے سے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔

۵) طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ۴۳ شکر کرنے سے نعمت میں

اضافہ ہوتا ہے ۴۴ صراط مستقیم کی صورت مثالی آخرت میں مثل پل صراط

کے ہے، پس جس شخص نے دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت کی یعنی

شریعت و سنت کا پابند رہا وہ اس پل صراط پر صبح سالم گزر جائے گا۔ پس

اگر چاہتے ہو کہ پل صراط پر پلک جھپکتے گزر جاؤ تو شریعت پر خوب مستقیم

رہو ۴۵ بعض طاعات مثلاً صبر پر جنت کا وعدہ ہے۔ حدیث قدسی

میں ارشاد ہے کہ جب اپنے مومن بندہ کے کسی پیارے کی جان لے لوں اور

وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ

نہیں — (بخاری)

سبق نمبر (۳۶)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز **قُلْ هُوَ اللهُ** آپ کہہ دیجیے کہ وہ یعنی اللہ احد ایک ہے۔

اللَّهُ الصَّمَدُ اللہ بے نیاز ہے (یعنی سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں)۔

② نماز کی سنتیں **سجده** میں پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا

(مردوں کے لیے) $\frac{9}{10}$ کہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا (مردوں کے لیے) ہنٹا کم از

کم تین مرتبہ **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** پڑھنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس

پر فضل فرمائیں) ④ ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کو تکلیف پہنچانا۔

⑤ بے خطا جان کو قتل کرنا یعنی ناحق خون کرنا ⑥ جھوٹی قسم کھانا۔

⑦ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ⑧ زکوٰۃ نہ دینے سے

بارش میں کمی ہو جاتی ہے ⑨ ناحق فیصلہ کرنے اور عہد شکنی کرنے سے دشمن

کو مسلط کر دیا جاتا ہے ⑩ ناپ تول میں کمی کرنے سے قحط و تنگی اور حکام کے

ظلم میں مبتلا کیا جاتا ہے۔

⑪ طاعت کے قائم رہے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑫ صراط مستقیم کی صورت مثالی

آخرت میں مثل پل صراط کے ہے، پس جس شخص نے دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت

کی یعنی شریعت و سنت کا پابند رہا وہ اس پل صراط پر صبح سالم گزر جائے گا۔ پس

اگر چاہتے ہو کہ پل صراط پر ہلک بھسکتے گزر جاؤ تو شریعت پر خوب مستقیم رہو

⑬ بعض طاعات مثلاً صبر بر جنت کا وعدہ ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے

کہ جب اپنے مومن بندہ کے کسی پیارے کی جان لے لوں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر

کرے اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ (بخاری) ⑭ ہر عمل کی آخرت

میں ایک صورت مثالی ہے۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت کے

درخت **سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ** ہیں۔ لہذا جو شخص چلے کہ جنت کے بہت سے درخت حصے میں آویں وہ ان کلمات کو خوب پڑھا کرے۔

سبق نمبر (۳۷)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز
احکا ایک ہے۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ اللّٰهُ بے نیاز ہے یعنی سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لَقَدْ يَلِدُ اس کے اولاد نہیں۔

② نماز کی سنتیں
۹/۵ سجدہ میں کہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا (مردوں کے لیے) پہنچا کم از کم تین مرتبہ سُبْحَانَ الرَّحْمٰنِ الْاَعْلٰی پڑھنا ۱۱/۵ سجدہ سے اٹھنے کی تکبیر کہنا۔

③ بڑے بڑے گناہ
جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ بے خطا جان کو قتل کرنا یعنی ناحق خون کرنا ⑤ جھوٹی قسم کھانا ⑥ رشوت لینا۔

④ گناہ کے نقصانات
جو دُنیا میں پیش آتے ہیں ⑤ ناحق فیصلہ کرنے اور عہد شکنی کرنے سے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے ⑥ ناپ تول میں کمی کرنے سے تحفظ و سعی اور حکام کے ظلم میں مبتلا کیا جاتا ہے ⑦ خیانت کرنے سے دل میں دشمن کا قبضہ ہوتا ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے
جو دُنیا میں ملتے ہیں ⑥ بعض طاعات مثلاً صبر پر جنت کا وعدہ ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ جب اپنے مومن بندے کے کسی پیارے کی جان لے لوں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ (بخاری) ⑦ ہر عمل کی آخرت میں ایک صورت مثالی ہے۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت کے درخت سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ہیں۔ لہذا جو شخص چاہے کہ جنت کے بہت سے درخت حصہ میں آویں وہ ان کلمات کو خوب پڑھا کرے ⑧ آخرت میں سورہ قل ہو اللہ احد کی صورت مثالی محل کی طرح ہے — رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورہ قل ہو اللہ دس بار پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے اور جو بیس مرتبہ پڑھے اس کے لیے دو محل تیار ہوتے ہیں۔ الی آخر الحدیث (داری) پس جو شخص چاہے کہ جنت میں بہت سے محل ملیں وہ کثرت سے (بحساب دس فیصد) سورہ قل ہو اللہ احد پڑھا کرے۔

سبق نمبر (۳۸)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① **ترجمہ اذکار نماز** اللّٰهُ الصَّمَدُ اللّٰهُ بے نیاز ہے یعنی سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لَمْ يَلِدْ اس کے اولاد نہیں دَمْ يُوْلَدْ اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔

② **نماز کی سنتیں** ۱۶ سجودہ میں کم از کم تین مرتبہ سُبْحَانَ سَمَاءِ الْاَعْلٰی پڑھنا ۱۶ سجودہ سے اٹھنے کی تکبیر کہنا ۱۶ سجودہ سے اٹھنے میں پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھوں کو پھر گھٹنوں کو اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔

③ **بڑے بڑے گناہ** جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ③۶ جھوٹی قسم کھانا ③۷ رشوت لینا ③۸ رشوت دینا۔ البتہ جہاں بغیر رشوت دیے ظالم کے ظلم سے نہ بچ سکے وہاں رشوت دینے والے کو گناہ نہ ہوگا لیکن رشوت لینا ہر حال میں حرام ہے۔

④ **گناہ کے نقصانات** جو دنیا میں پیش آتے ہیں ③۹ ناپ تول میں کمی کرنے سے قحط و تنگی اور حکام کے ظلم میں مبتلا کیا جاتا ہے ④۰ خیانت کرنے سے دل میں دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے ④۱ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرنے سے بزدلی پیدا ہوتی ہے اور دشمن کے دل سے رعب دور کر دیا جاتا ہے۔

⑤ **طاعت کے فائدے** جو دنیا میں ملتے ہیں ④۲ ہر عمل کی آخرت میں ایک صورت مثالی ہے۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت کے درخت سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَكْبَرُ ہیں۔ لہذا جو شخص چاہے کہ جنت کے بہت سے درخت حصہ میں آویں وہ ان کلمات کو خوب پڑھا کرے ④۳ آخرت میں سورہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ احد کی صورت مثالی محل کی طرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ احد دس مرتبہ پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے اور جو بیس مرتبہ پڑھے اس کے لیے دو محل تیار ہوتے ہیں۔ الی آخر الحدیث (داری) پس جو شخص چاہے کہ جنت میں بہت سے محل ملیں وہ کثرت سے (بحساب دس فی صد) سورہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ احد پڑھا کرے۔ ④۴ آخرت میں عمل جاری (صدقہ جاریہ) کی صورت مثالی چشمہ کی سی ہے، پس جو شخص چاہے کہ جنت کا چشمہ ملے وہ خوب صدقہ و خیرات کیا کرے۔

سبق نمبر (۳۹)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز لَعْرَلَيْدًا اس کے اولاد نہیں، وَلَمْ يُؤَلِّدْ اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ اور نہ ہے اس کے۔

② نماز کی سنتیں $\frac{1}{2}$ سجدہ سے اٹھنے کی تکبیر کہنا $\frac{1}{8}$ سجدہ سے اٹھنے میں پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھوں کو پھر گھٹنوں کو اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا $\frac{1}{9}$ قدمہ میں دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور پیر کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ رشوت لینا ⑤ رشوت دینا — البتہ جہاں بغیر رشوت دیے ظالم کے ظلم سے نہ بچ سکے وہاں رشوت دینے والے کو گناہ نہ ہوگا لیکن رشوت لینا ہر حال میں حرام ہے ⑥ شراب پینا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ⑤ خیانت کرنے سے دل میں دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے ⑥ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرنے سے بزدلی پیدا ہوتی ہے اور دشمن کے دل سے رعب دور کر دیا جاتا ہے ⑦ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے گناہوں کا انتقام لینا چاہتے ہیں تو نیچے بکثرت مرتے ہیں اور عورتیں بانجھ جاتی ہیں۔ (حیوۃ المسلمین)

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ آخرت میں سورہ قل ہو اللہ احد کی صورت مثالی عمل کی طرح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورہ قل ہو اللہ احد کو دس بار پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے اور جو بیس مرتبہ پڑھے اس کے لیے دو محل تیار ہوتے ہیں۔ اہل آخرا لہٗ (داری) پس جو شخص چاہے کہ جنت میں بہت سے محل میں وہ کثرت سے (بحساب دس فی صد) سورہ قل ہو اللہ احد پڑھا کرے ⑦ آخرت میں عمل جاری (صدقہ بھاریہ) کی صورت مثالی چشمہ کی سی ہے پس جو شخص چاہے کہ جنت کا چشمہ لے وہ خوب صدقہ و خیرات کیا کرے ⑧ آخرت میں دین کی صورت مثالی لباس کی ہے، پس جو شخص چاہے کہ اسے جنت میں خوب عمدہ لباس ملے وہ دین و تقویٰ کو مضبوط پکڑے۔

سبق نمبر (۴۰)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز : وَلَمْ يُولَدْ اوروں نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ اور نہ ہے اس کے، كُنْ فَاَحَدًا ۰ برابر کا کوئی۔

② نماز کی سنتیں : ۱۲ سجده سے اٹھنے میں پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھوں کو پھر گھٹنوں کو اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ ۱/۳ قعدہ میں داہنے پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور پیر کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا ۱/۳ دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا۔

③ بڑے بڑے گناہ : جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ رشوت دینا البتہ جہاں بغیر رشوت دیے ظالم کے ظلم سے نہ بچ سکے وہاں رشوت دینے والے کو گناہ نہ ہوگا لیکن رشوت لینا ہر حال میں حرام ہے ⑤ شراب پینا ⑥ شراب پلانا۔

④ گناہ کے نقصانات : جو دنیا میں پیش آتے ہیں ④ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرنے سے بزدلی پیدا ہوتی ہے اور دشمن کے دل سے رعب دور کر دیا جاتا ہے ⑤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے گناہوں کا انتقام لینا چاہتے ہیں تو سچے بکثرت مرتے ہیں اور عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں۔ (جودۃ المسلمین) ⑥ اللہ تعالیٰ حاکموں کے دلوں میں رعایا کے لیے غضب و غصہ پیدا فرمادیتے ہیں پھر وہ ان کو سخت عذاب و سزا کی تکلیف دیتے ہیں۔

⑤ طاعت کے فائدے : جو دنیا میں ملتے ہیں ④ آخرت میں عمل جاری (صدقہ جاریہ) کی صورت مثالی چشمہ کی سی ہے، پس جو شخص چاہے کہ جنت کا چشمہ ملے وہ خوب صدقہ و خیرات کیا کرے ⑤ آخرت میں دین کی صورت مثالی لباس کی ہے، پس جو شخص چاہے کہ اسے جنت میں خوب عمدہ لباس ملے وہ دین و تقویٰ کو مضبوط پکڑے ⑥ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی صورت مثالی قیامت کے دن مثل ہادل سیاہ سائبان یا قطار باندھے ہوئے پرندوں کی ٹکڑیوں کے ہونے، پس جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن سایہ میں ہو تو ان سورتوں کی تلاوت کیا کرے۔

سبق نمبر (۴۱)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ اُوْرَنَهٗ اِسْ كَهٗ، كُنُوْا اِحْدًا ۝ برابر کا کوئی۔ سُبْحَانَ پاكی بیان کرتا ہوں۔

② نماز کی سنتیں $\frac{1}{4}$ قعدہ میں داہنے پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور پیر کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا $\frac{1}{4}$ دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا $\frac{1}{4}$ تشہد میں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ بِرْشَہَادَتِ الْاَنْبِیِّیِّیْنَ کُوْا اَحْدًا اور لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ پْرَہْبَکَادِیْنَا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ③۹ شراب پینا ④۰ شراب پلانا ④۱ شراب پخوڑنا یعنی کشید کرنا، بنانا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ④۹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے گناہوں کا انتقام لینا چاہتے ہیں تو بچے بکثرت مرتے ہیں اور عورتیں باہجہ ہو جاتی ہیں۔ (حیوۃ المسلمین) ④۰ اللہ تعالیٰ حاکموں کے دلوں میں رعایا کے لیے غضب غصہ پیدا فرمادیتے ہیں پھر وہ ان کو سخت عذاب و سزا کی تکلیف دیتے ہیں ④۱ تعریف کرنے والا خود اس کی برائی کرنے لگتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نحوست سے اس کی محبت و عظمت دل سے نکل جاتی ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ④۹ آخرت میں دین کی صورت مثالی لباس کی ہے، پس جو شخص چاہے کہ اُسے جنت میں خوب عمدہ لباس ملے وہ دین و تقویٰ کو مضبوط پکڑے ④۰ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی صورت مثالی قیامت کے دن مثل بادل سیاہ سائبان یا قطار باندھے ہوئے پرندوں کی ٹکڑیوں کے ہوگی، پس جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن سایہ میں ہو تو ان سورتوں کی تلاوت کیا کرے ④۱ علم کی صورت مثالی آخرت میں مثل دودھ کے ہے پس جو شخص چاہے کہ جنت میں دودھ کا چشمہ ملے یا حوض کوثر سے سیراب ہو وہ خوب علم دین حاصل کرے۔

لہ اس کا طریقہ ہے کہ چٹھیا اور پاس والی انگلی کو، پھیل سے ملانے پھر بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو خاکر گول ملنے بنائے پھر شہادت کی انگلی اٹھائے اور جھکانے کے بعد سلام تک ملانے باقی رکھے۔

سبق نمبر (۴۲)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز کے فَوَاحِشًا ۰ برابر کا کوئی، سُبْحَاتِ پائی بیان کرتا ہوں، رَبِّ الْعَظِيْمِ اپنے رب کی جو بزرگی والا ہے۔

② نماز کی مستثنیٰ دو دنوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا ۳؎ شہد میں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور اِلَّا اللهُ پر جھکا دینا ۴؎ قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ۴۰؎ شراب پلانا ۴۱؎ شراب بخورنا یعنی کشید کرنا، بنانا ۴۲؎ شراب بخورنا یعنی کشید کروانا، بنوانا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۴۰؎ اللہ تعالیٰ حاکموں کے دلوں میں رعایا کے لیے غضب و غصہ پیدا فرمادیتے ہیں پھر وہ ان کو سخت عذاب و سزا کی تکلیف دیتے ہیں ۴۱؎ تعریف کرنے والا خود اس کی برائی کرنے لگتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نحوست سے اس کی محبت و عظمت دل سے نکل جاتی ہے۔ ۴۲؎ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی کی زمین سے بغیر حق کے ذرا سی بھی لے لے یعنی ناجائز قبضہ کر لے اس کو قیامت کے دن ساتوں زمین میں عسایا جائے گا۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ۴۰؎ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی صورت مثالی قیامت کے دن مثل بادل سیاہ ساہبان یا قطار باندھے ہوئے پرندوں کی مگرہوں کے ہوگی، پس جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن سایہ میں ہو تو ان سورتوں کی تلاوت کیا کرے ۴۱؎ علم کی صورت مثالی آخرت میں مثل دودھ کے ہے، پس جو شخص چاہے کہ جنت میں دودھ کا چشمہ ملے یا حوض کوثر سے سیراب ہو وہ خوب علم دین حاصل کرے خواہ کتابوں سے پڑھ کر یا عالموں سے پوچھ پاتھ کر ۴۲؎ نماز کی صورت مثالی مثل نور کے ہے، پس جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن بل صراط پر اس کے پاس نور رہے تو نماز کا خوب اہتمام کرے۔

سبق نمبر (۴۳)

نَحْمَدُكَ يَا مُحَمَّدًا عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز
سُجَّانَ پَاقِی بَیَانِ کَرْتَا ہوں سَبَّحِ الْعَظِيمِ اپنے رب کی
جو بزرگی والا ہے۔ سَبَّحَ اللّٰهُ سُبْحٰنِ اللّٰهِ نے بات۔

② نماز کی سنتیں
۳۱ تشہد میں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ پر شہادت کی اٹھی گواہانا
اور اِلَّا اللّٰهُ پر جھکا دینا ۳۲ قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا ۳۳ درود شریف
کے بعد کوئی دعا پڑھنا جو قرآن و حدیث میں آئی ہو۔

③ بڑے بڑے گناہ
جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے
نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس
پر فضل فرمائیں) ④ شراب پینا یعنی کشید کرنا، بنانا ⑤ شراب پینا یعنی
کشید کرنا، بنانا ⑥ شراب کا پینا۔

④ گناہ کے نقصانات
جو دنیا میں پیش آتے ہیں ⑤ تعریف کرنے والا خود اس
کی برائی کرنے لگتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تافرمانی کی نحوست سے اس کی محبت و عظمت
دل سے نکل جاتی ہے ⑥ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی کی زمین سے بغیر
حق کے ذرا سی بھی لے لے یعنی ناجائز قبضہ کرے اس کو قیامت کے دن ساتوں زمین
میں دھنسیا جائے گا ⑦ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے
ہیں۔ اگر گناہ پر کوئی اور سزا بھی نہ ہوتی تو صرف یہ سوچ کر گناہ سے بچنا ضروری تھا
کہ کوئی شخص اپنے محسن کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس محسن حقیقی اور ایسے کریم مالک
کو جس کے ہم پر بے شمار و لامتناہی احسانات ہیں ناراض کرنا شرافت و بندگی کے خلاف
ہے پھر اس کے علاوہ، گناہوں پر دنیا و آخرت میں سخت عذابوں کی وعید بھی ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے
جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ علم کی صورت مثالی آخرت میں مثل دودھ
کے ہے، پس جو شخص چاہے کہ جنت میں دودھ کا چشمہ ملے یا حوض کوثر سے سیراب ہو وہ خوب علم
دین حاصل کرے خواہ کتابوں سے پڑھ کر یا عالموں سے پوچھ پاچھ کر ⑦ نماز کی صورت مثالی نور
کے ہے، پس جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن پل صراط پر اس کے پاس نور ہے تو نماز کا خوب اتہام کرے
⑧ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میری
اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں اور جب راضی ہوتا ہوں تو برکت کرتا ہوں اور
میری برکت کی کوئی انتہا نہیں۔ (حجۃ المسلمین)

سبق نمبر (۴۴)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار شمار
تمہاری العظیم اپنے رب کی جو بزرگی والا ہے سیمۃ اللہ سن
لی اللہ نے بات، لایمن اس کی۔

② نماز کی سنتیں
پہ قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا ۱۱ درود شریف
کے بعد کوئی دعا جو قرآن و حدیث میں آئی ہو پڑھنا ۱۱ دونوں طرف سلام پھیرنا۔

③ بڑے بڑے گناہ
جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اور سے
نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس
پر فضل فرمائیں) ④ شراب پھوڑوانا یعنی کشید کروانا، بنوانا ⑤ شراب کا بیچنا
⑥ شراب کا خریدنا۔

③ گناہ کے نقصانات
جو دنیا میں پیش آتے ہیں ④ بخاری شریف کی حدیث
ہے کہ جو شخص کسی کی زمین سے بغیر حق کے ذرا سی بھی لے لے یعنی ناجائز قبضہ
کر لے اس کو قیامت کے دن ساتوں زمین میں دھنسا یا جائے گا ⑤ سب
سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اگر گناہ پر کوئی اور سزا بھی
نہ ہوتی تو صرف یہ سوچ کر گناہ سے بچنا ضروری تھا کہ کوئی شخص اپنے محسن کو
ناراض کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس محسن حقیقی اور ایسے کریم مالک کو جس کے ہم پر
بے شمار و لامتناہی احسانات ہیں ناراض کرنا شرافت و بندگی کے خلاق ہے،
پھر اس کے علاوہ گناہوں پر دنیا و آخرت میں سخت عذابوں کی وعید بھی ہے
⑥ گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ بسندہ علم دین سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے
جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ نماز کی صورت مثالی مثل نور
کے ہے، پس جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن پل صراط پر اس کے پاس
نور رہے تو نماز کا خوب اہتمام کرے ⑦ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ
تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میری
اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں اور جب راضی ہوتا ہوں تو برکت
کرتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ⑧ رزق میں برکت عطا ہوتی
ہے یعنی کبھی رزق میں ظاہری زیادتی بھی ہوتی ہے اور برکت تو ہمیشہ
ہوتی ہے کہ تھوڑے رزق میں نفع کثیر ہوتا ہے اور چین سے گذراوقات ہوتی ہے۔

سبق نمبر (۲۵)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

۱) ترجمہ اذکار نماز: سَبَّحَ اللهُ سُنَّ لِي اللهُ نَبَاتٌ ، لِيَمَنْ اس کی، حَمْدًا جس نے اس کی تعریف کی۔

۲) نماز کی سنتیں: پہلے درود شریف کے بعد کوئی دعا جو قرآن و حدیث میں آئی ہو پڑھنا۔ دونوں طرف سلام پھیرنا۔ سلام کی داہنی طرف سے ابتداء کرنا۔

۳) بڑے بڑے گناہ: جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ۴۳) شراب کا بیچنا ۴۴) شراب کا خریدنا ۴۵) شراب کے دام کھانا۔

۴) گناہ کے نقصانات: جو دُنیا میں پیش آتے ہیں ۴۳) سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اگر گناہ پر کوئی اور سزا بھی نہ ہوتی تو صرف یہ سوچ کر گناہ سے بچنا ضروری تھا کہ کوئی شخص اپنے محسن کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس محسن حقیقی اور ایسے کریم مالک کو جس کے ہم پر بے شمار و لامتناہی احسانات ہیں ناراض کرنا شرافت و بندگی کے خلاف ہے۔ پھر اس کے علاوہ گناہوں پر دنیا و آخرت میں سخت عذابوں کی وعید بھی ہے ۴۴) بندہ علم دین سے محروم کر دیا جاتا ہے ۴۵) رزق کم ہو جاتا ہے یعنی رزق کی برکت جاتی رہتی ہے اگرچہ بظاہر زیادہ نظر آوے لیکن اس کا نفع قلیل ہو جاتا ہے مثلاً بیماری، پریشانی، مقدمہ و اسراف وغیرہ میں خرچ ہو گیا۔

۵) طاعت کے فائدے: جو دُنیا میں ملتے ہیں ۴۳) سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں اور جب راضی ہوتا ہوں تو برکت کرتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں۔ (جِوَاةُ السَّلِيْمِيْنَ) ۴۴) رزق میں برکت عطا ہوتی ہے یعنی جس رزق میں ظاہری زیادتی بھی ہوتی ہے اور برکت تو ہمیشہ ہوتی ہے کہ تھوڑے رزق میں نفع کثیر ہوتا ہے اور زمین سے گذراقات ہوتی ہے ۴۵) طرح طرح کی برکتیں زمین و آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔

سبق نمبر (۴۶)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز لَعْنُ اس کی، حَيْدَہ جس نے اس کی تعریف کی۔ رَبَّنَا اے ہمارے پروردگار!

② نماز کی سنتیں بیٹھ دونوں طرف سلام پھیرنا ﷺ سلام کی داہنی طرف سے ابتداء کرنا بیٹھ امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور نیک جنات کو سلام کی نیت کرنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) (۴۴) شراب کا خریدنا (۴۵) شراب کے دام کھانا (۴۶) شراب کو لاد کر لانا یعنی کسی کے لیے شراب لانا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں (۴۳) بندہ علم دین سے محروم کر دیا جاتا ہے (۴۵) رزق کم ہو جاتا ہے یعنی رزق کی برکت جاتی رہتی ہے، اگرچہ بظاہر زیادہ نظر آئے لیکن اس کا نفع قلیل ہو جاتا ہے۔ مثلاً بیماری، پریشانی، مقدمہ و اسراف وغیرہ میں خرچ ہو گیا (۴۶) گنہگار کو اللہ تعالیٰ سے ایک وحشت سی رہتی ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں (۴۴) رزق میں برکت عطا ہوتی ہے۔ یعنی کبھی رزق میں ظاہری زیادتی بھی ہوتی ہے اور برکت تو ہمیشہ ہوتی ہے کہ تھوڑے رزق میں نفع کثیر ہوتا ہے اور چین سے گذر اوقات ہوتی ہے (۴۵) طرح طرح کی برکتیں زمین و آسمان سے نازل ہوتی ہیں (۴۶) ہر قسم کی تکلیف و پریشانی دور ہوتی ہے اور ہر قسم کی تنگی و دشواری سے نجات ملتی ہے۔



سبق نمبر (۲۷)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز حیدہ جس نے اس کی تعریف کی . رَبَّنَا اے ہمارے پروردگار! لَكَ الْحَمْدُ تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں۔

② نماز کی سنتیں ﷺ سلام کی داہنی طرف سے ابتدا کرنا ﷺ امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور نیک جنات کو سلام کی نیت کرنا ﷺ مقتدیوں کو امام اور فرشتوں اور نیک جنات اور دائیں بائیں کے مقتدیوں کو سلام کی نیت کرنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ شراب کے دام کھانا ⑤ شراب کو لا کر لانا یعنی کسی کے لیے شراب لانا ⑥ شراب منگانا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ⑤ رزق کم ہو جاتا ہے یعنی رزق کی برکت جاتی رہتی ہے اگرچہ بظاہر زیادہ نظر آئے لیکن اس کا نفع قابل ہو جاتا ہے مثلاً بیماری، پریشانی، مقدمہ و اسراف وغیرہ میں خرچ ہو گیا ⑥ گنہگار کو اللہ تعالیٰ سے ایک وحشت سی رہتی ہے ⑦ آدمیوں سے خصوصاً نیک لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے اور اس طرح ان سے دور ہو کر ان کے برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ طرح طرح کی برکتیں زمین و آسمان سے نازل ہوتی ہیں ⑦ ہر قسم کی تکلیف و پریشانی دور ہوتی ہے اور ہر قسم کی تنگی و دشواریوں سے نجات ملتی ہے ⑧ ہر کام میں آسانی ہوتی ہے۔



سبق نمبر (۲۸)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز رَبَّنَا اے ہمارے پروردگار لَكَ الْحَمْدُ تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں۔ سُبْحَانَ مَا بِيْ الْاَعْظَى پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے۔

② نماز کی سنتیں ۱۰ امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور نیک چنات کو سلام کی نیت کرنا ۱۰ مقتدیوں کو امام اور فرشتوں اور نیک چنات اور دائیں بائیں کے مقتدیوں کو سلام کی نیت کرنا ۱۰ منفرد کو صرف فرشتوں کو سلام کی نیت کرنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ شراب لا کر لانا یعنی کسی کے لیے شراب لانا ⑤ شراب منگانا ⑥ جہاد شرعی سے بھاگ جانا۔

⑦ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ⑧ گنہگار کو اللہ تعالیٰ سے ایک وحشت سی رہتی ہے ⑨ آدمیوں سے خصوصاً نیک لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے اور اس طرح ان سے دور ہو کر ان کے برکات سے محروم ہو جاتا ہے ⑩ اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے۔

⑪ طاعت کے ناکارے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑫ قسم کی تکلیف و پریشانی دور ہوتی ہے اور ہر قسم کی تنگی و دشواریوں سے نجات ملتی ہے ⑬ ہر کام میں آسانی ہوتی ہے ⑭ نیکی و طاعت کا ایک ذریعہ فائدہ یہ ہے کہ زندگی مزیدار ہو جاتی ہے اور ایسی پر لطف زندگی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں جیسی اللہ کے نیک بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔



سبق نمبر (۴۹)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز لَكَ الْحَمْدُ تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں۔ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ پاك ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے۔ اَلْحَمْدُ لَكَ تَمَامِ زَبَانِي عِبَادَتِي۔

② نماز کی سنتیں $\frac{9}{12}$ مقتدیوں کو امام اور فرشتوں اور نیک جنت اور داییں اور بائیں کے مقتدیوں کو سلام کی نیت کرنا $\frac{11}{12}$ منفرد کو صرف فرشتوں کو سلام کی نیت کرنا $\frac{11}{12}$ مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ شراب منگانا ⑤ جہاد شرعی سے بھاگ جانا ⑥ رشوت کے معاملے میں پڑنا۔ مثلاً رشوت دینے لینے کا معاملہ طے کر دینا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ⑤ آدمیوں سے خصوصاً نیک لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے اور اس طرح ان سے دور ہو کر ان کے برکات سے محروم ہو جاتا ہے ⑥ اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے ⑦ دل میں تاریکی و ظلمت پیدا ہو جاتی ہے جس کی نحوست سے آدمی بدعت و گمراہی و جہالت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ ہر کام میں آسانی ہوتی ہے ⑦ زندگی مزیدار ہو جاتی ہے اور ایسی پُرلطف زندگی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں جیسی اللہ کے نیک بندوں کو نصیب ہوتی ہے ⑧ بارش ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اولاد ہوتی ہے، باغات پھلتے ہیں، نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے۔



سبق نمبر (۵۰)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار غماز: مُحَمَّدًاكَ سَمِيْحًا رَافِقًا اِلْحٰفًا پاك ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے۔

الْحَيَاتُ تمام زبانی عبادتیں، اللہ کے لیے ہیں۔

② نماز کی سنتیں: منفر د کو صرف فرشتوں کو سلام کی نیت کرنا پہلے مقتدی

کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا ۱۱۰ امام کو دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا۔

③ بڑے بڑے گناہ: جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ جہاد شرعی سے بھاگ جانا ⑤ رشوت کے معاملے میں پڑنا۔

مثلاً رشوت دینے لینے کا معاملہ طے کر دینا ⑥ جو اکھیلنا۔

⑦ گناہ کے نقصانات: جو دنیا میں پیش آتے ہیں ⑧ اکثر کاموں میں

دشواری پیش آتی ہے ⑨ دل میں تاریکی و ظلمت پیدا ہو جاتی ہے جس کی نحوست سے آدمی بدعت و گمراہی و جہالت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے ⑩ دل اور

جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ دل کی کمزوری یہ ہے کہ نیک کاموں کی ہمت گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو جاتی ہے پھر دل کی کمزوری سے جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی

وجہ ہے کہ بظاہر قوی و تندرست کفار بھی صحابہؓ کے سامنے نہ ٹھہر سکتے تھے۔

⑪ طاعت کے ناکارے: جو دنیا میں ملتے ہیں ⑫ زندگی مزیدار ہو جاتی ہے اور

ایسی پر لطف زندگی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں جیسی اللہ کے نیک بندوں کو نصیب ہوتی ہے ⑬ بارشس ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اولاد ہوتی ہے،

باغات پھلتے ہیں، نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے ⑭ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے تمام ضرورت و آفات کو دور کر دیتا ہے۔

سبق نمبر (۵۱)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز اَلْحَيٰتِ كُلِّهَا تَمَامُ زَبَانِي عِبَادَتِي بِرَبِّكَ اللهُ كَرِيْمٌ كَرِيْمٌ اور تمام بدنی عبادتیں۔

② نماز کی سنتیں ﷺ مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا ﷺ امام کو دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا ﷺ مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا۔ یعنی جب امام دونوں طرف سلام پھیرے تب مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی رکعات پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ رشوت کے معاملہ میں پڑنا۔ مثلاً رشوت لینے کا معاملہ طے کرادینا ⑤ جو اکیلنا ⑥ ظلم کرنا

③ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ④ دل میں تاریکی و ظلمت پیدا ہو جاتی ہے جس کی نحوست سے آدمی بدعت و گمراہی و جہالت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے ⑤ دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ دل کی کمزوری یہ ہے کہ نیک کاموں کی ہمت گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو جاتی ہے پھر دل کی کمزوری سے جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر قوی و تندرست کفار بھی صحابہؓ کے سامنے نہ ٹھہر سکتے تھے ⑥ آدمی توفیق طاعت سے محروم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ گناہوں کی نحوست سے رفتہ رفتہ تمام نیک کام چھوٹ جاتے ہیں۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ④ بارش ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اولاد ہوتی ہے، باغات پھلتے ہیں، نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے ⑤ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے تمام شرور و آفات کو دور کر دیتا ہے ⑥ طاعت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مالی نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اور اس کا نعم البدل مل جاتا ہے۔

سبق نمبر (۵۲)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز **بِسْمِ اللّٰهِ** کے لیے ہیں وَالصَّلٰوةُ تمام بدنی عبادتیں وَالْعَلَقِيَّاتُ تمام مالی عبادتیں اَلْحَيٰتُ بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالْعَلَقِيَّاتُ کا ترجمہ ہوا: سب زبانی عبادتیں اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔

② نماز کی سنتیں **بِسْمِ اللّٰهِ** امام کو دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا **بِسْمِ اللّٰهِ** مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا یعنی امام جب دونوں طرف سلام پھیر لے تب مسبوق اپنی چھوٹی ہوتی رکعات پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو **بِسْمِ اللّٰهِ** رکوع میں مرد کے ہاتھ کی انگلیاں پھیلی ہوتی اور سجدہ میں ملی رکھنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ⑤۰ جو اکیلنا ⑤۱ ظلم کرنا ⑤۲ کسی کا مال یا چیز بغیر اس کی مرضی و اجازت کے لے لینا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں **بِسْمِ اللّٰهِ** دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ دل کی کمزوری یہ ہے کہ نیک کاموں کی ہمت گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ دل کی کمزوری سے جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر قوی و تندرست کفار بھی صحابہؓ کے سامنے نہ ٹھہر سکتے تھے **بِسْمِ اللّٰهِ** آدمی توفیق طاعت سے محروم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ گناہوں کی نحوست سے رفتہ رفتہ تمام نیک کام چھوٹ جاتے ہیں **بِسْمِ اللّٰهِ** زندگی گھٹتی ہے اور زندگی کی برکت نکل جاتی ہے۔

⑤ طاعت کے ناکامی جو دنیا میں ملتے ہیں **بِسْمِ اللّٰهِ** اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے تمام شرور و آفات کو دور کر دیتا ہے **بِسْمِ اللّٰهِ** مالی نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اور اس کا نعم البدل مل جاتا ہے **بِسْمِ اللّٰهِ** نیک کام میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔

سبق نمبر (۵۳)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز وَالصَّلَاةُ تَمَامُ بَدَنِ عِبَادَتِيْنَ، وَالْعَلِيَّةَاتُ اور تمام مالی عبادتیں۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ سلام ہو آپ پر۔

② نماز کی سنتیں ۱۱۱ مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا (یعنی امام جب دونوں طرف سلام پھیرے تب مسبوق اپنی پٹھوٹی ہونی رکعات پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوا، ۱۱۲ رکوع میں مرد کے ہاتھ کی انگلیاں پھیل ہونی اور سجدہ میں مٹی رکھنا ۱۱۳ عورتوں کی نماز کے طریقہ کا فرق — عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، مردوں کی طرح کانوں تک نہ اٹھائے۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ ظلم کرنا ⑤ کسی کا مال یا چیز بغیر اس کی مرضی و اجازت کے لے لینا ⑥ سود لینا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں عا آدمی توفیق طاعت سے محروم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ گناہوں کی نحوست سے رفتہ رفتہ تمام نیک کام چھوٹ جاتے ہیں عا زندگی گھسٹی ہے اور زندگی کی برکت نکل جاتی ہے عا ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ گناہوں کا عادی ہو جانے سے چھوڑنا دشوار ہوتا ہے حتیٰ کہ گناہ میں لذت بھی نہیں رہتی مگر عادت سے مجبور ہو کر کرتا ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں عا مالی نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اور اس کا نعم البدل مل جاتا ہے عا نیک کام میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے عا دل کو ایسا سکون و اطمینان عطا ہوتا ہے جس کی لذت کے سامنے ہفت قلیم کی سلطنت بیچ ہے۔

سبق نمبر (۵۴)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① **ترجمہ اذکار نماز** وَالصَّلٰتِیْنَ اور تمام مال عبادتیں، السَّلَامُ عَلَیْكَ سلام ہو آپ پر، اٰیٰهَا النَّبِیُّ اے نبی! السَّلَامُ عَلَیْكَ اِیْهَا النَّبِیُّ سلام ہو آپ پر اے نبی!

② **نماز کی سنتیں** ۵۲ رکوع میں مرد کے ہاتھ کی انگلیاں پھیلی ہوں اور سجدہ میں ملی رکھنا ۵۳ عورت بکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، مرد کی طرح کانوں تک نہ اٹھائے ۵۴ ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے۔

③ **بڑے بڑے گناہ** جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ⑤۲ کسی کا مال یا چیز بغیر اس کی مرضی و اجازت کے لے لینا ⑤۳ سود لینا ⑤۴ سود دینا۔

④ **گناہ کے نقصانات** جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ زندگی گھسٹی ہے اور زندگی کی برکت نکل جاتی ہے ۲۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ گناہوں کا عادی ہو جانے سے چھوڑنا دشوار ہوتا ہے حتیٰ کہ گناہ میں لذت بھی نہیں رہتی مگر عادت سے مجبور ہو کر کرتا ہے ۳۔ توبہ کا ارادہ کمزور ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ بالکل توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور اسی نافرمانی کی حالت میں موت آجاتی ہے۔

⑤ **ناعت کے فائدے** جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ نیک کام میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے ۲۔ دل کو ایسا سکون و اطمینان عطا ہوتا ہے جس کی لذت کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بیچ ہے ۳۔ اس شخص کی اولاد تک کو نفع پہنچتا ہے اور اولاد بھی بلاؤں سے محفوظ رہتی ہے۔

سبق نمبر (۵۵)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز **السَّلَامُ عَلَيْكَ** سلام ہو آپ پر، اِنِّهَا الْعَيْشُ اے نبی! وَرَحْمَةُ اللَّهِ اور اللہ کی رحمت۔

② نماز کی سنتیں ④ عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے مرد کی طرح کانوں تک نہ اٹھائے ⑤ ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے ⑥ عورت سینہ پر ہاتھ باندھے۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ سود لینا ⑤ سود دینا ⑥ سود لکھنا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں بلکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ گناہوں کا عادی ہو جانے سے چھوڑنا دشوار ہوتا ہے حتیٰ کہ گناہ میں لذت بھی نہیں رہتی مگر عادت سے مجبور ہو کر کرنا ہے۔ عطا توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بالکل توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور اسی نافرمانی کی حالت میں موت آجاتی ہے۔ کچھ دن میں اس گناہ کی بُرائی دل سے نکل جاتی ہے اور یہ شخص کھلم کھلا گناہ کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت و معافی سے دور ہو جاتا ہے اور گناہ کی بُرائی دل سے کم ہوتے ہوتے بعض اوقات کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ بغور باللہ!

⑤ شاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں بلکہ دل کو ایسا سکون و اطمینان عطا ہوتا ہے جس کی لذت کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بیچ ہے۔ اس شخص کی اولاد تک کو نفع پہنچتا ہے اور اولاد بھی بلاؤں سے محفوظ رہتی ہے۔ زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہوتی ہیں۔ مثلاً اچھا خواب دیکھ لیا، جیسے جنت میں چلا گیا ہے جس سے دل خوش ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور بڑھ گئی اور اس سے مزید نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے۔

سبق نمبر (۵۶)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز: اَیْمَا النَّبِیِّ اے نبی! وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اور اللہ کی رحمت، وَبَرَکَاتُهُ اور اس کی برکتیں۔ السَّلَامُ عَلَیْكَ اَیْمَا النَّبِیِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهُ کا ترجمہ ہوا: سلام ہو آپ پر اے نبی! اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں

② نماز کی سنتیں: ⑤۴ ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے ⑤۵ عورت سینہ پر ہاتھ باندھے ⑤۶ عورت اپنے ہاتھ کی پھیلی بائیں ہاتھ کی پھیلی کی پشت پر رکھ دے مردوں کی طرح چھٹکلیا اور انگوٹھے سے گئے کو نہ پکڑے۔

③ بڑے بڑے گناہ: جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے ڈرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ⑤۴ سود دینا ⑤۵ سود لکھنا ⑤۶ سود پر گواہ بننا۔

④ گناہ کے نقصانات: جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ توبہ کا ارادہ کمزور ہونا جاتا ہے یہاں تک کہ بالکل توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور اسی نافرمانی کی حالت میں موت آجاتی ہے ۲۔ کچھ دن میں اس گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے اور یہ شخص کھلم کھلا گناہ کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت و معافی سے دور ہوتا جاتا ہے اور گناہ کی برائی دل سے کم ہوتے ہوتے بعض اوقات کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے — نفوذ باللہ ۳۔ ہر گناہ دشمنانِ خدا میں سے کسی کی میراث ہے تو گویا یہ شخص ان ملعون قوموں کا وارث بنتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کسی قوم کی وضع بنائے وہ انہیں میں شمار ہوگا۔ لہذا جلد توبہ کرنی چاہیے۔

⑤ طاعت کے فائدے: جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ اس شخص کی اولاد بچ کو نفع پہنچتا ہے اور اولاد بھی بلاؤں سے محفوظ رہتی ہے ۲۔ زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہوتی ہیں۔ مثلاً اچھا خواب دیکھ لیا جیسے جنت میں چلا گیا ہے جس سے دل خوش ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور بڑھ گئی اور اس سے مزید نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے ۳۔ نیک اعمال کرنے سے فرشتے مرتے وقت جنت کی اور وہاں کی نعمتوں کی اور حق تعالیٰ کی رضا کی خوش خبری سناتے ہیں۔

سبق نمبر (۵۷)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

۱) ترجمہ اذکار نماز وَرَحْمَةُ اللهِ اور اللہ کی رحمت، وَ بَرَکَاتُهُ: اور اس کی برکتیں، اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ تَا سَلَام ہو ہم پر۔

۲) نماز کی سنتیں ۵۵) عورت سینہ پر ہاتھ باندھے ۵۶) عورت اپنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے، مردوں کی طرح چھنگلیا اور انگوٹھے سے گئے کونہ پکڑے ۵۷) رکوع میں کم جھکے۔

۳) بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ۵۵) سود لکھنا ۵۶) سود پر گواہ بننا ۵۷) جھوٹ بولنا۔

۴) گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں عطا کچھ دنوں میں اس گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے اور یہ شخص کھلم کھلا گناہ کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت و معافی سے دور ہو جاتا ہے اور گناہ کی برائی دل سے کم ہوتے ہوتے بعض اوقات کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے — نعوذ باللہ! عطا ہر گناہ دشمنانِ خدا میں سے کسی کی میراث ہے تو گویا یہ شخص ان ملعون قوموں کا وارث بنتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کسی قوم کی وضع بنائے وہ انہیں میں شمار ہوگا۔ لہذا جلد توبہ کرنی چاہیے عطا گنہگار شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قدر و ذلیل ہو جاتا ہے اور مخلوق میں بھی عزت نہیں رہتی خواہ لوگ اس کے شرکے خوف سے یا کسی لالچ سے اس کی تعظیم کریں لیکن کسی کے دل میں اس کی عظمت نہیں رہتی۔

۵) طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں عطا زندگی میں فیہی بشارتیں نصیب ہوتی ہیں۔ مثلاً اچھا خواب دیکھ لیا جیسے جنت میں چلا گیا ہے جس سے دل خوش ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور بڑھ گئی اور اس سے مزید نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے عطا فرشتے مرتے وقت جنت کی اور وہاں کی نعمتوں کی اور حق تعالیٰ کی رضا کی خوش خبری سناتے ہیں عطا بعض عبادات میں یہ اثر ہے کہ اگر کسی معاملہ میں تردد و فکر ہو وہ جاتا رہتا ہے اور اس طرف رائے قائم ہو جاتی ہے جس میں سراسر خیر و نفع ہو، نقصان کا احتمال ہی نہیں رہتا جیسے نماز استخارہ پڑھ کر دعا کرنے سے۔

سبق نمبر (۵۸)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز وَبَرَكَاتِهِ اور اس کی برکتیں السَّلَامُ عَلَيْنَا سلام ہو، ہم پر وَ عَلَيَّ عِبَادِ اللّٰهِ اور اللہ کے بندوں پر۔

② نماز کی سنتیں عورتوں کے لیے - (۵۶) داہنے ہاتھ کی پتیلی بائیں ہاتھ کی پتیلی

کی پشت پر رک دے، مردوں کی طرح پھینک لیا اور انگلیوں سے گئے کو نہ پکڑے۔
⑤۴ رکوع میں کمر جھکے ⑤۸ رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رک دے، مردوں کی طرح انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو نہ پکڑے۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ⑤۶ سو دہ گواہ بنانا ⑤۷ جھوٹ بولنا ⑤۸ امانت میں خیانت کرنا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں مگر گناہ دشمنان خدا میں

سے کسی کی میراث ہے تو گویا یہ شخص ان ملعون قوموں کا وارث بنتا ہے۔
حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کسی قوم کی وضع بنائے وہ انہیں میں شمار ہوگا۔ لہذا جلد توبہ کرنی چاہئے مگر گنہگار شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قدر و ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اور مخلوق میں بھی عزت نہیں رہتی خواہ لوگ اس کے شر کے خوف سے یا کسی لالچ سے اس کی تعظیم کریں لیکن کسی کے دل میں اس کی عظمت نہیں رہتی مگر گناہ کی نحوست نہ صرف گنہگار کو پہنچتی ہے بلکہ اس کا ضرر دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے جس کی وجہ سے جانور تک اس پر لعنت کرتے ہیں۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں مگر فرشتے مرتے وقت جنت کی اور

وہاں کی نعمتوں کی اور حق تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری سناتے ہیں مگر بعض عبادات میں یہ اثر ہے کہ اگر کسی معاملہ میں تردد و فکر ہو وہ جاتا رہتا ہے اور اسی طرف رائے قائم ہو جاتی ہے جس میں سراسر خیر اور نفع ہو۔ نقصان کا احتمال ہی نہیں رہتا جیسے نماز استخارہ پڑھ کر دعا کرنے سے مگر بعض عبادات میں یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ جیسے حدیث قدسی میں ارشاد ہے: اے ابن آدم! میرے لیے شروع دن میں چار رکعت پڑھ لیا کریں ختم دن تک تیرے سامنے کام بنا دیا کروں گا (ترمذی شریف)۔

سبق نمبر (۵۹)

تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز السَّلَامُ عَلَيْنَا سَلَامٌ هُوَ بِمِثْرِ وَ عَلَى عِبَادِ اللّٰهِ اور اللہ کے بندوں پر الصَّالِحِينَ نیک بندے۔ السَّلَامُ عَلَيْنَا سے ترجمہ ہوا: سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔

② نماز کی سنتیں عورتوں کے لیے — ⑤۷ رکوع میں کم جھکے ⑤۸ رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے ہر دوں کی طرح انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو نہ پکڑے ⑤۹ دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رہے۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ⑤۷ جھوٹ بولنا ⑤۸ امانت میں خیانت کرنا ⑤۹ وعدہ خلافی کرنا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں مگر گنہگار شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قدر و ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اور مخلوق میں بھی عزت نہیں رہتی خواہ لوگ اس کے شر کے خوف سے یا کسی لالچ سے اس کی تعظیم کریں لیکن کسی کے دل میں اس کی عظمت نہیں رہتی مگر گناہ کی نحوست نہ صرف گناہگار کو پہنچتی ہے بلکہ اس کا ضرر دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے جس کی وجہ سے جانور تک اس پر لعنت کرتے ہیں مگر عقل میں فتور اور کمی آجاتی ہے بلکہ گناہ بد عقل ہی کرتا ہے کیونکہ اگر عقل صحیح ہوتی تو ایسی قدرت والے دونوں جہان کے مالک کی نافرمانی نہ کرتا اور گناہ کی ذرا سی لذت پر دنیا و آخرت کے منافع کو ضائع نہ کرتا۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں مگر بعض عبادات میں یہ اثر ہے کہ اگر کسی معاملہ میں تردد و فکر ہو وہ جاتا رہتا ہے اور اسی طرف رائے قائم ہو جاتی ہے جس میں سراسر خیر اور نفع ہو نقصان کا احتمال ہی نہیں رہتا۔ جیسے نماز استخارہ پڑھ کر دعاء کرنے سے مگر بعض عبادات میں یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں جیسے حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ اے ابن آدم میرے لیے شروع دن میں چار رکعت پڑھ لیا کر میں ختم دن تک تیرے سارے کام بنا دیا کروں گا۔ (ترمذی شریف) مگر بعض نیکیوں میں یہ اثر ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں مال بیچنے والے اور خریدنے والے کے بیچ بولنے پر اور اپنے مال کا عیب بتانے پر برکت کا وعدہ ہے۔ (جزائر اعمال)

سبق نمبر (۶۰)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز وَعَلَى عِبَادِكَ اور اللہ کے بندوں پر، الصَّالِحِينَ نیک بندے۔ اِنَّهُنَّ میں گواہی دیتا ہوں۔

② نماز کی سنتیں عورتوں کے لیے (۵۸) رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے، مردوں کی طرح انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو نہ پکڑے (۵۹) دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رہے (۶۰) دونوں پیر کے نچنے بالکل ملا دے۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) (۵۸) امانت میں خیانت کرنا (۵۹) وعدہ خلافی کرنا (۶۰) لڑکیوں کو میراث کا حصہ نہ دینا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں اے گناہ کی نحوست نہ صرف گناہگار کو پہنچتی ہے بلکہ اس کا ضرر دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے جس کی وجہ سے جانور تک اس پر لعنت کرتے ہیں اے عقل میں فتور اور کمی آجاتی ہے بلکہ گناہ بد عقل ہی کرتا ہے کیونکہ اگر عقل صحیح ہوتی تو ایسی قدرت والے دو جہان کے مالک کی نافرمانی نہ کرتا اور گناہ کی ذرا سی لذت پر دنیا و آخرت کے منافع کو ضائع نہ کرتا اے گناہگار شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے مثلاً قوم لوط کا عمل کرنے والے پر، تصور بنانے والے پر، جو پر اور صحابہ کو برا کہنے والے پر وغیرہ وغیرہ۔ اگر گناہ پر کوئی اور سزا نہ بھی ہوتی تو کیا یہ تصور انقصان ہے کہ حضور رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں شخص آ گیا۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں اے بعض عبادات میں یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں جیسے حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ اے ابن آدم! میرے لیے شروع دن میں چار رکعت پڑھ لیا کر میں ختم دن تک تیرے سارے کام بنا دیا کروں گا اے بعض نیکیوں میں یہ اثر ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں بیچنے والے اور خریدنے والے کے سچ بولنے پر اور اپنے مال کا عیب بتا دینے پر برکت کا وعدہ ہے۔ (جزائہ الاعمال) اے اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری سے حکومت و سلطنت باقی رہتی ہے۔

سبق نمبر (۶۱)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز الصَّالِحِيْنَ نیک بندے۔ اَتَقَهُمْ میں گواہی دیتا ہوں
اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا كُوْنُوْا مَبْعُوْدُوْنَ۔

② نماز کی سنتیں عورتوں کے لیے — ⑤۹ دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے
رہے ⑥۰ دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا دے ⑥۱ سجدہ میں پاؤں کھڑے
نہ کرے بلکہ داہنی طرف کونکال دے۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے
نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس
پر فضل فرمائیں) ⑤۹ وعدہ خلافی کرنا ⑥۰ لڑکیوں کو میراث کا حصہ نہ دینا ⑥۱ اللہ تعالیٰ کا کوئی
فرض مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑ دینا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں عقل میں فتور اور کمی آجاتی
ہے بلکہ گناہ بد عقل ہی کرتا ہے کیونکہ اگر عقل صحیح ہوتی تو ایسے قدرت والے دونوں جہان کے
مالک کی نافرمانی نہ کرتا اور گناہ کی ذرا سی لذت پر دنیا و آخرت کے منافع کو ضائع نہ کرتا
علاوہ گناہگار شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ
نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مثلاً قوم لوط کا عمل کرنے والے پر تصویر
بنانے والے پر، چور پر، اور صحابہ کو بُرا کہنے والے پر وغیرہ وغیرہ۔ اگر گناہ پر کوئی اور
سزا نہ بھی ہوتی تو کیا یہ تھوڑا نقصان ہے کہ حضور رحمت اللغائبین صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت
میں یہ شخص آگیا علاوہ گناہگار آدمی فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ فرشتے ان
مومنین کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں بس جس
نے گناہ کر کے وہ راہ چھوڑ دی وہ اس دولت کا کہاں مستحق رہا۔

⑤ ثنات کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں علاوہ بعض نیکیوں میں یہ اثر ہے کہ مال
میں برکت ہوتی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں بھیجنے والے اور خریدنے والے کے سچ
بولنے پر اور اپنے مال کا عیب بتا دینے پر برکت کا وعدہ ہے۔ (جزاء الاعمال)
علاوہ اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری سے حکومت و سلطنت باقی رہتی ہے علاوہ بعض مالی
عبادات سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بچتا ہے اور بُری حالت پر موت نہیں آتی — حدیث
پاک میں ہے کہ حدتہ پروردگار کے غصہ کو بچھاتا ہے اور بُری موت سے بچاتا ہے۔

سبق نمبر (۶۲)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز
انہدک میں گواہی دیتا ہوں ان لا الہ الا اللہ کے سوا۔ انہدک ان لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہوا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

② نماز کی سنتیں
عورتوں کے لیے — ⑥۰ دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملادے
⑥۱ سجدہ میں پاؤں کھڑے نہ کرے بلکہ دائیں طرف نکال دے ⑥۲ خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور بازو دونوں پہلوؤں سے ملادے۔

③ بڑے بڑے گناہ
جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ⑥۰ لوگوں کو میراث کا حصہ نہ دینا ⑥۱ اللہ تعالیٰ کا کوئی فرض جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑ دینا ⑥۲ کسی مسلمان کو بے ایمان، کافر، خدا کا دشمن کہنا۔

④ گناہ کے نقصانات
جو دنیا میں پیش آتے ہیں۔ گنہگار شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مثلاً قوم لوط کا ٹل کرنے والے پر، تصویر بنانے والے پر، چور پر، اور صحابہ کو بُرا کہنے والے پر وغیرہ وغیرہ۔ اگر گناہ پر کوئی اور سزا نہ بھی ہوتی تو کیا یہ تھوڑا نقصان ہے کہ حضور رحمتہ تلغابین صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں یہ شخص آ گیا۔ گنہگار آدمی فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ فرشتے ان مومنین کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، بس جس نے گناہ کر کے وہ راہ چھوڑ دی وہ اس دولت کا کہاں مستحق رہا۔ طرح طرح کی خرابیاں گناہوں کی نحوست سے زمین میں پیدا ہوتی ہیں۔ پانی، ہوا، غلہ، پھل ناقص ہو جاتا ہے۔

⑤ طاعت کے نائدے
جو دنیا میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری سے حکومت و سلطنت باقی رہتی ہے۔ بعض مالی عبادات سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بچتا ہے اور بُری حالت پر موت نہیں آتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ پروردگار کے غصہ کو بچھاتا ہے اور بُری موت سے بچاتا ہے۔ پچاتا ہے۔ بلا ملتی ہے اور نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔

سبق نمبر (۶۳)

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

① ترجمہ اذکار نماز: اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ لَا اَشْرَکَہٗ اِنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ السِّرَّ اِنَّ اللّٰہَ اَعْلَمُ بِمَا فِیْ سُدُوْرٍ اَوْ اَنْ یَّحْمَدُنَا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

② نماز کی سنتیں: عورتوں کے لیے — ⑥۱ سجدہ میں پاؤں کھڑے نہ کرے بلکہ داہنی طرف کونکال دے ⑥۲۔ خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں راتوں سے اور بازو دونوں پہلوؤں سے ملادے ⑥۳ کہنیوں کو زمین پر رکھے۔

③ بڑے بڑے گناہ: جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ⑥۱ اللہ تعالیٰ کا کوئی فرض جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑ دینا ⑥۲ کسی مسلمان کو بے ایمان، کافر، خدا کا دشمن کہنا ⑥۳ بھاؤ لے کر کے بعد میں زبردستی کر کے کم دینا۔

④ گناہ کے نقصانات: جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ گنہگار آدمی فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ فرشتے اُن مومنین کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں بس جس نے گناہ کر کے وہ راہ چھوڑ دی وہ اس دولت کا کہاں مستحق بنا ۲۔ طرح طرح کی خرابیاں گناہوں کی نحوست سے زمین میں پیدا ہوتی ہیں۔ پانی، ہوا، غلہ، پھل، ناقص ہو جاتا ہے ۳۔ گناہ کرنے سے شرم و حیا جاتی رہتی ہے اور جب شرم نہیں رہتی تو آدمی جو کچھ کر گذرے تھوڑا ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے: جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ بعض مالی عبادات سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھٹتا ہے اور بُری حالت پر موت نہیں آتی — حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ پروردگار کے غصہ کو بھٹاتا ہے اور بُری موت سے بچاتا ہے ۲۔ دعا سے بلا ملتی ہے اور نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے ۳۔ بعض نیکیوں سے تمام کام بن جاتے ہیں جیسے سورہ یسین پڑھنے سے — حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص شروع دن میں سورہ یسین پڑھے اس کی تمام حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ (داری)

سبق نمبر (۶۴)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز
 اِلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ کے سوا وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدُ اللہ اس کے بندے۔

② نماز کی سنتیں
 عورتوں کے لیے — ⑥۲ خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں راتوں سے اور بازو دونوں پہلوؤں سے ملادے ⑥۳ کہنیوں کو زمین پر رکھ دے ⑥۴ قعدہ میں بائیں طرف بیٹھے۔

③ بڑے بڑے گناہ
 جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ⑥۲ کسی مسلمان کو بے ایمان، کافر، خدا کا دشمن کہنا ⑥۳ بھاؤ طے کر کے بعد میں زبردستی کر کے کم دینا ⑥۴ نامحرم کے پاس تنہائی میں بیٹھنا۔

④ گناہ کے نقصانات
 جو دُنیا میں پیش آتے ہیں۔ عا طرح طرح کی خرابیاں گناہوں کی نحوست سے زمین میں پیدا ہوتی ہیں۔ پانی، ہوا، غلہ، پھل ناقص ہو جاتا ہے عا گناہ کرنے سے شرم و حیا جاتی رہتی ہے اور جب شرم نہیں رہتی تو آدمی جو کچھ کر گزرے تھوڑا ہے عا اللہ تعالیٰ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی عزت نہیں رہتی لہذا یہ شخص لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے
 جو دُنیا میں ملتے ہیں عا دعا سے بلا ملتی ہے اور نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے عا بعض نیکیوں سے تمام کام بن جاتے ہیں جیسے سورۃ یسین پڑھنے سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص شروع دن میں سورۃ یسین پڑھے اس کی تمام حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ (داری) عا بعض نیکی و طاعت سے فائدہ نہیں ہوتا جیسے سورۃ واقعہ پڑھنے سے — حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ہر رات سورۃ واقعہ پڑھا کرے اس کو کبھی فائدہ نہ ہوگا۔

سبق نمبر (۶۵)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

① **ترجمہ اذکار نماز** وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَوْرَثَ فِيهِ كَلِمَاتِ اللَّهِ الْعَزِيزِ
وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اس کے بندے وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول ہیں۔

② **نماز کی مستتیں** عورتوں کے لیے — ④۳ کہنیوں کو زمین پر رکھ دے
④۴ قعدہ میں بائیں طرف بیٹھے ④۵ بیٹھنے میں دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے۔

③ **بڑے بڑے گناہ** جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے
نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس
پر فضل فرمائیں) ④۳ بھاؤ طے کر کے بعد میں زبردستی کر کے کم دینا ④۴ نامحرم
کے پاس تنہائی میں بیٹھنا ④۵ ناچ دیکھنا۔

④ **گناہ کے نقصانات** جو دنیا میں پیش آتے ہیں مگر شرم و حیا جاتی رہتی ہے
اور جب شرم نہیں رہتی تو آدمی جو کچھ کر گزرے تھوڑا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی عظمت
دل سے نکل جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی عزت نہیں رہتی لہذا
یہ شخص لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے مگر نعمتیں چھن جاتی ہیں اور بلاؤں
اور مصیبتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ بعض گناہ بگارا اگر بڑے عیش میں نظر آتے ہیں تو یہ اللہ کی
طرف سے ڈھیل ہے اور ایسا شخص اور بھی زیادہ خطرہ میں ہے کیونکہ جب یہ بگڑ میں
آئیں گے تو دنیا یا آخرت میں اکٹھی سزا دی جائے گی۔

⑤ **طاعت کے فائدے** جو دنیا میں ملتے ہیں مگر بعض نیکیوں سے تمام کام بن
جاتے ہیں جیسے سورۃ یسین پڑھنے سے — حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص شروع
دن میں سورۃ یسین پڑھے اس کی تمام حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ (اداری)
مگر بعض نیکی و طاعت سے فائدہ نہیں ہوتا جیسے سورۃ واقعہ پڑھنے سے — حدیث پاک
میں ہے کہ جو شخص ہر رات سورۃ واقعہ پڑھا کرے اس کو کبھی فائدہ نہ ہوگا۔
مگر ایمان کی برکت سے تھوڑے کھانے میں آسودگی ہو جاتی ہے — حدیث پاک
میں ہے کہ ایک شخص حالت کفر میں بہت کھایا کرتا تھا ایمان لانے کے بعد بہت کم
کھانے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک نیت میں کھاتا ہے اور کافرسات آنت میں

سبق نمبر (۶۶)

نَحْمَدُهُ وَتُصَلِّيَ عَلَيَّ رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز
عَبْدُهُ اس کے بندے وَ رَسُوْلُهُ اور اس کے رسول ہیں۔
اَللّٰهُمَّ صَلِّ اے اللہ! رحمت نازل فرما۔

② نماز کی سنتیں
عورتوں کے لیے (۶۳) قعدہ میں بائیں طرف بیٹھے (۶۵) بیٹھنے میں
دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے (۶۶) قعدہ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں خوب ملی رکھے۔

③ بڑے بڑے گناہ
جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے
نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس
پر فضل فرمائیں) (۶۴) محرم کے پاس تنہائی میں بیٹھنا (۶۵) ناچ دیکھنا (۶۶) راگ
باجا (جس کو آج کل موسیقی کہتے ہیں) سنانا۔

④ گناہ کے نقصانات
جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل
سے نکل جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی عزت نہیں رہتی لہذا یہ شخص لوگوں
کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے ۲۔ نعمتیں چھین جاتی ہیں اور بلاؤں اور مصیبتوں
کا ہجوم ہوتا ہے۔ بعض گناہ نگار اگر بڑے عیش میں نظر آتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے
ذلیل ہے اور ایسا شخص اور بھی زیادہ خطرہ میں ہے کیونکہ جب یہ کپڑے میں آئیں گے
تو دنیا یا آخرت میں اکٹھی سزا دی جائے گی ۳۔ عزت و شرافت کے القاب چھین کر
ذلت و رسوائی کے خطاب ملتے ہیں مثلاً نیکی کرنے سے جو شخص نیک، فرماں بردار،
سجد گزار کہلاتا ہے اگر خدا خواست گناہ کرنے لگا تو اب وہی شخص فاسق، فاجر، زانی، ظالم وغیرہ کہا جاتا ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے
جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ بعض نیکی و طاعت سے فائدہ
نہیں ہوتا جیسے سورہ واقعہ پڑھنے سے — حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ
واقعہ پڑھا کرے اس کو کبھی فائدہ ہوگا ۲۔ ایمان کی برکت سے تھوڑے کھانے میں
آسودگی ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص حالت کفر میں بہت کھایا کرتا
تھا ایمان لانے کے بعد بہت کم کھانے لگا بحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن
ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنت میں ۳۔ بقض دعاؤں کی یہ برکت
ہے کہ بیماری لگنے اور مصیبت آنے کا خوف نہیں رہتا جسے کسی مریض یا مبتلائے
مصیبت کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنے سے: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ
وَفَضَّلَنِي عَلٰی كَثِيْرٍ مِّنْ خَلْقٍ تَفَضَّلَا۔ (ترمذی)

سبق نمبر (۶۸)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَسْمَاءِ رَحْمَتِ نَازِلٍ فَرَمَا عَلٰى مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرُؤُوسِ اِلْحَمْدِ اِلِىَّ مُحَمَّدًا اَوْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِىْ اَلٍ پَر۔

② سلسلہ سنن عورتوں کے لیے نماز کی سنت ۶۶ قعدہ میں دونوں ہاتھوں کی

انگلیاں خوب ملی رکھے۔ آگے سوکرائٹھنے کی سنتیں ہیں۔ ① نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھیں ملنا تاکہ نیند کا شمار دور ہو جائے۔ (شامی ترمذی) ② صبح آنکھ کھلنے پر یہ دعا پڑھے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُورُ

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ راگ باجا (جس کو آج کل موسیقی کہتے ہیں) سنا۔

⑤ کافروں کی رسمیں پسند کرنا ⑥ کسی سے سخر اپن کر کے اسے بے عزت اور شرمندہ کرنا۔

③ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ عزت شرافت کے القاب

پھین کر ذلت رسوائی کے خطاب ملتے ہیں مثلاً نیکی کرنے سے جو شخص نیک، فرماں بردار تہجد گزار کہلاتا ہے اگر خدا نخواستہ گناہ کرنے لگا تو اب وہی شخص فاسق و فاجر، نالایق و ظالم وغیرہ کہا جاتا ہے۔ شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں اور باسانی اس کے اعضاء کو گناہوں میں غرق کر دیتے ہیں ۲۔ دل کا اطمینان جانا رہتا ہے اور ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کہیں عزت نہ جانی رہے، کوئی بدلہ نہ لینے لگے وغیرہ اس سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ بعض دعاؤں کی یہ برکت ہے کہ

بیماری لگنے اور مصیبت آنے کا خوف نہیں رہتا جیسے کسی مریض یا مبتلائے مصیبت کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنے سے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَاقَبَنِیْ بِمَا اَبْتَلَاکَ بِہٖ وَفَضَّلَنِیْ عَلٰی کَثِیْرٍ مِّنْ خَلْقٍ تَفَضَّلَا۔ (ترمذی) ۱۔ بعض دعاؤں کی برکت سے فکریں زائل اور قرض ادا ہو جاتا ہے جیسے حدیث پاک میں یہ دعا بعلم فرمائی گئی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاعُوْذُ بِکَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْکَسَلِ وَاعُوْذُ بِکَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْجَلِّ وَاعُوْذُ بِکَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّیْنِ وَقَهْرِ الْیَتٰمٰلِ ۱۔ بعض دعا مخلوق کے ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے جیسے سورہ اخلاص، سورہ فاتح، سورہ ناس صبح و شام تین تین بار پڑھنے سے مخلوق کے ہر شر سے حفاظت کا حدیث پاک میں وعدہ ہے۔

سبق نمبر (۶۹)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ ازکارنماز
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کماصلت جیسا کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی۔

② سلسلہ سنتیں
 سوکراٹھنے کی سنتیں۔ ① نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں

سے چہرہ اور آنکھیں ملنا تاکہ نیند کا خمیر دور ہو جائے۔ (شامل ترمذی) ② صبح
 آنکھ کھلنے پر یہ دعا پڑھنا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
 ③ سوکراٹھنے کے بعد سواک کرنا۔ وضو کے وقت دوبارہ سواک کی جائے گی وہ علیحدہ سنت ہے۔

③ بڑے بڑے گناہ
 جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے
 نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس
 پر فضل فرمائیں) ④ کافروں کی رہیں پسند کرنا ⑤ کسی سے مسخر اپن کر کے
 اسے بے عزت اور شرمندہ کرنا ⑥ بلا عذر نماز قضا کر دینا۔

④ گناہ کے نقصانات
 جو دنیا میں پیش آتے ہیں مگر شیاطین اس پر مسلط
 ہو جاتے ہیں اور آسانی اس کے اعضاء کو گناہوں میں غرق کر دیتے ہیں مگر دل کا
 اطمینان جاتا رہتا ہے مگر گناہ کرتے کرتے وہی گناہ دل میں بس جاتا ہے یہاں
 تک کہ مرتے وقت کلمہ تک پھینچنے سے نہیں نکلتا بلکہ جو کام زندگی بھر کیا کرتا تھا وہی
 سرزن ہوتے ہیں مثلاً ایک پیسہ مانگنے والا کلمہ پڑھنے کے بجائے پیسہ مانگتا ہوا مر گیا۔ نعوذ باللہ!

⑤ طاعت کے فائدے
 جو دنیا میں ملتے ہیں مگر بعض دعاؤں کی برکت سے فکرس
 زائل اور قرض ادا ہو جاتا ہے جیسے حدیث پاک میں یہ دعا تعلیم دی گئی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
 اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْجَلْدِ وَاَعُوْذُ
 بِكَ مِنَ غَلْبَةِ الدِّیْنِ وَقَهْرِ التَّجَالِیْ۔ بعض دعاؤں مخلوق کے ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے
 جیسے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس صبح و شام تین تین بار پڑھنے سے
 مخلوق کے ہر شر سے حفاظت کا حدیث پاک میں وعدہ ہے مگر بعض نیکی و عبادت
 سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ
 تعالیٰ بندہ کی حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔

سبق نمبر (۷۱)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز کما صليت جیسا کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی عَنكَ

اِنَّهٗنَّ اَبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِرُوحِكَ اِلٰى اَبْرَاهِيْمَ وَاٰرَآءِمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي آل پر

② سلسلہ سنن سوکراٹھنے کی سنتیں۔ ③ سوکراٹھنے کے بعد مسواک کرنا۔

وضو کے وقت دوبارہ مسواک کی جائیگی وہ علیحدہ سنت ہے ④ برتن میں ہاتھ

ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو گتوں تک اچھی طرح تین مرتبہ دھونا ⑤ بیت الخلاء میں

داخل ہونے سے پہلے یہ دُعا پڑھیں بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّحْبِثِ وَالنَّجَبِثِ۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس

پر فضل فرمائیں) ④ بلا عذر نماز قضا کر دینا ⑤ لڑکوں سے بد فعلی کرنا ⑥ خدا

کی رحمت سے مایوس ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمن ورحیم ہے کیسا ہی بڑا گناہ ہو

توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتے ہیں لہذا جلد توبہ کرنی چاہیے۔

③ گناہ کے نقصانات جو دُنیا میں پیش آتے ہیں عا گناہ کرتے کرتے وہی

گناہ دل میں بس جاتا ہے یہاں تک کہ مرتے وقت کلمہ تک منہ سے نہیں نکلتا

بلکہ جو کام زندگی بھر کیا کرتا تھا وہی سرزد ہوتے ہیں مثلاً ایک پیسہ مانگنے والا کلمہ

پڑھنے کے بجائے پیسہ مانگتا ہوا مر گیا۔ نعوذ باللہ! ع اللہ تعالیٰ کی رحمت سے

ناامیدی ہو جاتی ہے اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا اور بے توبہ مرتا ہے۔ ایک شخص

کو مرتے وقت کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو کہا کہ اس کلمہ سے کیا ہوگا میں نے تو کبھی

نماز ہی نہیں پڑھی اور مر گیا۔ اللہ پناہ میں رکھے ع دل پر سیاہ دھبہ لگ جانا

ہے جو توبہ سے مٹ جاتا ہے ورنہ بڑھتا ہی رہتا ہے جس سے قبول حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دُنیا میں ملتے ہیں ع بعض نیکی و عبادت سے

حاجت روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دُعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ

بندہ کی حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں ع ایمان اور نیک اعمال کی برکت سے اللہ

تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے ع جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں

فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثبات قدم رکھو۔

سبق نمبر (۷۲)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکارِ نماز
اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر اِنَّكَ بے شک آپ۔

② سلسلہ سنتیں
سو کر اٹھنے کی سنتیں — ③ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو گٹھوں تک اچھی طرح تین مرتبہ دھونا ⑤ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَ الْخُبَاثِ ⑥ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھنا۔

③ بڑے بڑے گناہ
جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ لوگوں سے بد فعلی کرنا ⑤ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمن و رحیم ہے کیسا ایسی بڑا گناہ ہو توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتے ہیں ① حقارت سے کسی پر ہنسنا۔

④ گناہ کے نقصانات
جو دنیا میں پیش آتے ہیں عا اللہ کی رحمت سے ناامیدی ہو جاتی ہے اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا اور بے توبہ مرتا ہے۔ ایک شخص کو مرتے وقت کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو کہا کہ اس کلمہ سے کیا ہوگا میں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی اور مر گیا۔ اللہ پناہ میں رکھے عا دل پر ایک سیاہ دھبہ لگ جاتا ہے جو توبہ سے مٹ جاتا ہے ورنہ بڑھتا ہی رہتا ہے جس سے قبول حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے عا دنیا کی رغبت اور آخرت سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے جس سے دنیائے فانی کے کاموں میں انہماک اور آخرت کے کاموں سے بے زاری ہو جاتی ہے۔

⑤ طاعت کے ناکارے
جو دنیا میں ملتے ہیں عا ایمان اور نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے عا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو عا کامل ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پہنچی عورت عطا فرماتے ہیں۔

سبق نمبر (۷۳)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز وَعَلَى آلِ ابْنِ هَيْمَةَ اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر ملائکہ بے شک آپ کو حقیقتاً تعریف کے لائق۔

② سلسلہ سنن بیت الخلاء کی سنتیں۔ ⑤ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ رَانِيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ⑥ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بائیں قدم رکھنا ④ سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء جانا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ خدا کی رحمت سے یابوس ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمن ورحیم ہے کیسا ہی بڑا گناہ ہو توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتے ہیں ① حقارت سے کسی پر ہنسنا ② کسی کو طعنہ دینا۔

③ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ دل پر ایک سیاہ دھبہ لگ جاتا ہے جو توبہ سے مٹ جاتا ہے ورنہ بڑھتا ہی رہتا ہے جس سے قبول حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے ۲۔ دنیا کی رغبت اور آخرت سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے جس سے دنیائے فانی کے کاموں میں انہماک اور آخرت کے کاموں سے بے زاری ہو جاتی ہے ۳۔ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو ۲۔ کامل ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سچی عزت عطا فرماتے ہیں ۳۔ ایمان و فرماں برداری کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرماتے ہیں۔

سبق نمبر (۷۴)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز اِنَّكَ بے شک آپ ﷺ تعریف کے لائق مجھیں بزرگی

والا۔ اِنَّكَ ﷺ بے شک آپ تعریف کے لائق اور بزرگی والے ہیں۔

② سلسلہ سنتیں بیت الخلاء کی سنتیں — ⑥ بیت الخلاء میں داخل ہوتے

وقت پہلے بائیں قدم رکھنا ④ سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء جانا

⑤ پیشاب پاخانہ کے لیے آسانی جتنا نیچا ہو کر بدن کھولیں اتنا ہی بہتر ہے۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس

پر فضل فرمائیں) ① حقارت سے کسی پر ہنسنا ② کسی کو طعنہ دینا ③ کسی

کو بڑے لقب سے پکارنا جیسے اواندھے، اوانگڑے، اوموٹے وغیرہ۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں مگر دنیا کی رغبت اور آخرت

سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے جس سے دنیا کے فانی کاموں میں انہماک اور

آخرت کے کاموں سے بے زاری ہو جاتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا

ہے مگر دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں مگر کامل ایمان والوں کو اللہ

تعالیٰ سچی عزت عطا فرماتے ہیں مگر ایمان و فرمانبرداری کی برکت سے اللہ تعالیٰ

ان کے مراتب بلند فرماتے ہیں مگر ایمان و نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کے

دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور زمین پر اس کو مقبولیت عطا کی

جاتی ہے۔



سبق نمبر (۷۵)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① **ترجمہ اذکار نماز** حَبِيْبًا تَعْرِيفِ كَيْ لَاتِقَ مَجِيْدًا بَزْرُكًا وَاللّٰهُمَّ بَارِكْ

اے اللہ! برکت نازل فرما۔

② **سلسلہ سنن** بیت الخلاء کی سنتیں — ④ سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر

بیت الخلاء جانا ⑧ پیشاب پاخانہ کے لیے آسانی جتنا نیچا ہو کر بدن کھولیں اتنا ہی بہتر ہے ⑨ پیشاب پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف نہ چہرہ کریں نہ اس طرف کو پیٹھ کریں۔

③ **بڑے بڑے گناہ** جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس

پر فضل فرمائیں) ② کسی کو طعنہ دینا ③ کسی کو بڑے لقب سے پکارنا

جیسے اواندھے، اونگڑے، اور موٹے وغیرہ ④ بدگمانی کرنا یعنی بغیر دلیل شرعی

کسی کو برا سمجھنا (مض حالات و قرآن سے)۔

④ **گناہ کے نقصانات** جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ اللہ تعالیٰ کا غضب

نازل ہوتا ہے ۲۔ دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے ۳۔ بسا اوقات

نیکیوں کے فائدے ضائع ہو جاتے ہیں۔

⑤ **طاعت کے نائدے** جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ ایمان و فرمانبرداری کی برکت سے

اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرماتے ہیں ۲۔ ایمان و نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ

مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور زمین پر اس کو مقبولیت

عطا کی جاتی ہے ۳۔ کامل ایمان والوں یعنی نیک مومن بندوں کے حق میں

قرآن پاک ہدایت و شفا رہے۔

سبق نمبر (۷۶)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز مَحْمَدٌ بزرگی والا۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ اے اللہ! برکت

نازل فرما علی مُحَمَّدٍ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔

② سلسلہ سنن بیت الخلاء کی سنتیں — ⑧ پیشاب پافانہ کے لیے آسانی

بتنا بچا ہو کر بدن کھولیں اتنا ہی بہتر ہے۔ ⑨ پیشاب پافانہ کے وقت

قبلہ کی طرف نہ چہرہ کریں نہ اس طرف کو پیٹھ کریں ⑩ پیشاب پافانہ کرتے وقت

بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کریں اسی طرح اللہ کا ذکر بھی نہ کریں۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس

پر فضل فرمائیں) ③ کسی کو بڑے لقب سے پکارنا جیسے ادا ندھے، ادا نڈھے،

اد موٹے وغیرہ ④ بگمائی کرنا یعنی بغیر دلیل شرعی (محض حالات و قرائن سے کسی

کو برا سمجھنا) ⑤ کسی کا عیب تلاش کرنا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ دل کی مضبوطی اور

دین کی پختگی جاتی رہتی ہے ۲۔ بسا اوقات نیکیوں کے فائدے طائع ہو جاتے ہیں

۳۔ بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں

پیدا ہوتی ہیں جو پہلے لوگوں میں نہیں تھیں۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ ایمان و نیکی کی برکت سے اللہ

تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور زمین پر اس کو

مقبولیت عطا کی جاتی ہے ۲۔ کامل ایمان والوں یعنی نیک مومن بندوں کے

حق میں قرآن پاک ہدایت و شفاء ہے ۳۔ شکر سے نعمت میں اضافہ

ہوتا ہے۔

سبق نمبر (۷۷)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز
اللہم ببارکات اے اللہ برکت نازل فرما علیٰ مُحَمَّدٍ
صل اللہ علیہ وسلم پر وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر۔

② سلسلہ سنن
بیت الخلاء کی سنتیں۔ ⑨ پیشاب پانانہ کے وقت قبلہ
کی طرف نہ چہرہ کریں نہ اس طرف کو پیٹھ کریں ⑩ پیشاب پانانہ کرتے
وقت بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کریں، اسی طرح اللہ کا ذکر بھی نہ کریں۔
⑪ پیشاب یا استنجا کرتے وقت عضو خاص کو داہنا ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بائیں
ہاتھ لگائیں۔

③ برٹلے برٹلے گناہ
جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے
نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس
پر فضل فرمائیں) ④ بدگمانی کرنا۔ یعنی بغیر دلیل شرعی کسی کو برا سمجھنا ⑤ کسی
کا عیب تلاش کرنا ⑥ کسی کی غیبت کرنا یعنی پیٹھ پیچھے کسی کا ایسا عیب اور
برائی بیان کرنا جو واقعاً اس میں ہو۔ اور اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو۔

④ گناہ کے نقصانات
جو دنیا میں پیش آتے ہیں یا بسا اوقات نیکیوں کے
فائدے ضائع ہو جاتے ہیں یا بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے طاعون اور
ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو پہلے لوگوں میں نہیں تھیں ⑤ زکوٰۃ نہ
دینے سے بارشس بند ہو جاتی ہے۔

⑤ طاعت کے نامورے
جو دنیا میں ملتے ہیں یا کامل ایمان والوں یعنی
نیک مومن بندوں کے حق میں قرآن پاک ہدایت و شفا ہے ⑥ شکر سے
نعمت میں اضافہ ہوتا ہے ⑦ آخرت میں صراط مستقیم کی صورت مثالی مثل
پل صراط کے ہے پس جس شخص نے دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت کی یعنی
شریعت پر خوب قائم رہا وہ پل صراط سے صحیح سالم پلک بھٹکتے گذر جائے گا۔ پس اگر
چاہتے ہو کہ پل صراط سے پلک بھٹکتے گذر جاؤ تو شریعت کے خوب پابند رہو۔

سبق نمبر (۷۸)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① **ترجمہ اذکار نماز** علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وَصَلَّى عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ اور

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر گمناہاڑکت جیسی کہ برکت نازل فرمائی آپ نے۔

② **سلسلہ سنن** بیت الخلاء کی سنتیں۔ ⑩ پیشاب پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف

نہ چہرہ کریں نہ اس طرف کو پیٹھ کریں ⑪ پیشاب یا استنجا کرتے وقت عضو

خاص کو داہنا ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بائیں ہاتھ لگائیں ⑫ پیشاب پاخانہ کی چھینٹوں

سے بہت بچیں کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے ہوتا ہے۔

⑬ **بڑے بڑے گناہ** جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس

پر فضل فرمائیں) ⑤ کسی کا عیب تلاش کرنا ⑥ کسی کی غیبت کرنا یعنی پیٹھ

چیتھے کسی کا ایسا عیب اور برائی بیان کرنا جو واقعہ اس میں ہو ④ بلا وجہ کسی

کو برا بھلا کہنا۔

② **گناہ کے نقصانات** جو دنیا میں پیش آتے ہیں مگر بے شرمی اور بے حیائی کے

کاموں سے طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو پہلے لوگوں میں

نہیں تھیں مگر زکوٰۃ نہ دینے سے بارش بند ہو جاتی ہے مگر ناحق فیصلہ کرنے

اور عہد شکنی کرنے سے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔

⑤ **طاعت کے فائدے** جو دنیا میں ملتے ہیں مگر شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا

ہے مگر آخرت میں صراط مستقیم کی صورت مثال مثل پل صراط کے ہے پس جس شخص

نے دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت کی یعنی شریعت پر خوب قائم رہا وہ پل صراط

سے صحیح سالم پلک جھپکتے گزر جائے گا پس اگر چاہتے ہو کہ پل صراط سے پلک جھپکتے گزر جاؤ تو

شریعت کے خوب پابند رہو مگر بعض نیکیوں پر مثلاً صبر پر جنت کا وعدہ ہے حدیث قدسی

میں ارشاد ہے کہ جب میں کسی مومن بندہ کے پیارے کی جان لے لیتا ہوں اور وہ

ثواب سمجھ کر صبر کرتا ہے اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ (بخاری)

سبق نمبر (۷۹)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر کما باریکت جیسی کہ برکت نازل فرمائی آپ نے عَلَیْكَ اَبْرَاهِيْمَ اَبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ پر۔

② سلسلہ سنن بیت الخلاء کی سنتیں — ⑪ پیشاب یا استنجاء کرتے

وقت حضور خاص کو داہنا ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بائیں ہاتھ لگائیں ⑫ پیشاب پاخانہ کی چھینٹوں سے بہت بچیں کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے ہوتا ہے ⑬ بیٹھ کر پیشاب کریں کھڑے ہو کر نہ کریں۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ کسی کی غیبت کرنا یعنی پیٹھ پیچھے کسی کا ایسا عیب اور برائی بیان کرنا جو واقعہ اس میں ہو ⑤ بلا وجہ کسی کو بُرا بھلا کہنا ⑥ چغلی کرنا یعنی ادھر کی بات ادھر لگا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ساز کوۃ نہ دینے سے بارش

بند ہو جاتی ہے ⑤ ناحق فیصلہ کرنے اور عہد شکنی کرنے سے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے ⑥ ناپ تول میں کسی کرنے سے قحط و تنگی اور حکام کے ظلم میں مبتلا کیا جاتا ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ آخرت میں صراطِ مستقیم کی

صورت مثالی مثل پل صراط کے ہے پس جس شخص نے دنیا میں صراطِ مستقیم پر استقامت کی یعنی شریعت پر خوب قائم رہا وہ پل صراط سے بیچ سالم پلک جھپکتے گذر جائے گا پس اگر چاہتے ہو کہ پل صراط سے پلک جھپکتے گذر جاؤ تو شریعت کے خوب پابند رہو ⑦ بعض نیکیوں پر مثلاً صبر پر جنت کا وعدہ ہے حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ جب میں کسی مومن بندہ کے پیارے کی جان لے لیتا ہوں اور وہ توبہ سمجھ کر صبر کرتا ہے اس کے سچے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں (بخاری) ⑧ جنت کے درخت سُجْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ہیں یعنی ان کی صورت مثالی درخت کی سی ہے لہذا جو شخص چاہے کہ جنت کے درخت حصّہ میں آئیں وہ ان کلمات کو پڑھا کرے۔

سبق نمبر (۸۰)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

(۱) ترجمہ اذکار نماز
ابراہیم علیہ السلام پر وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔

(۱۲) سلسلہ مشن بیت الخلاء کی سنتیں۔ (۱۲) پیشاب پاخانہ کی چھینٹوں سے بہت

بچیں کیونکہ اکثر مذہب قبر پیشاب کی چھینٹوں کے بچنے سے ہوتا ہے (۱۳) بیٹھ کر پیشاب کریں
کھڑے ہو کر نہ کریں (۱۴) بیت الخلاء سے نکلنے وقت پہلے داہنا پیر نکالیں اور باہر
آکر یہ دعا پڑھیں غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنِّي الْاَذَى وَعَاقَبَنِي۔

(۱۵) برے برے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس
پر فضل فرمائیں) (۱۶) بلا وجہ کسی کو بُرا بھلا کہنا (۱۷) چغلی کرنا یعنی ادھر کی بات
ادھر لگا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا (۱۸) تہمت لگانا یعنی جو عیب کسی میں نہ ہو وہ
اس کی طرف منسوب کرنا۔

(۱۹) کار کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں مباحی فیصلہ کرنے اور عہد شکنی

کرنے سے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے ممانا پ تول میں کمی سے قحط و تنگی اور حکام کے
ظلم میں مبتلا کیا جاتا ہے ممانا خیانت کرنے سے دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔

(۲۰) شاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ممانا بعض نیکیوں پر مثلاً صبر پر جنت

کا وعدہ ہے۔ — حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ جب میں کسی مومن بندہ کے
پیارے کی جان لے لیتا ہوں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرتا ہے اس کے لیے میرے پاس
جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ (بخاری) ممانا جنت کے درخت مَسْجِدَانَ اللّٰهِ وَ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ہیں یعنی ان کی صورت مثالی درخت کی سی
ہے لہذا جو شخص جاسے کہ جنت کے درخت حصہ میں آویں وہ ان کلمات کو پڑھا
کرے ممانا سورۃ اخلاص کی صورت مثالی عمل کی طرح ہے۔ حدیث پاک
میں ہے جو شخص سورۃ اخلاص دس مرتبہ پڑھے جنت میں اس کے لیے ایک
عمل تیار ہوتا ہے جو بیس مرتبہ پڑھے اس کے لیے دو عمل الی آخر الحدیث۔
پس کثرت سے سورۃ اخلاص پڑھنے سے جنت میں بہت سے عمل ملیں گے۔

سبق نمبر (۸۱)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز عَلَيَّ اِنْزَلْتَهُمْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِرِوَايَةِ اَبِي اَبِي بَكْرٍ

ابراہیم علیہ السلام کی آل پر اِنَّكَ بیشک آپ۔

② سلسلہ سنن بیت الخلاء کی سنتیں ⑬ بیٹھ کر پیشاب کریں کھڑے ہو کر نہ

کریں ⑭ بیت الخلاء سے نکلنے وقت پہلے داہنا پیر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ الْاَذَى دَعَا فَاِنِي ⑮ بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں پیشاب پاخانہ سے فارغ ہونا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ⑧ چغلی کرنا یعنی ادھر کی بات ادھر لگانا مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ⑨ تہمت لگانا یعنی جو عیب کسی میں نہ ہو وہ اس کی طرف منسوب کرنا ⑩ دھوکہ دینا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں مانا پ تول میں کمی کرنے

سے قحط و تنگی اور حکام کے ظلم میں مبتلا کیا جاتا ہے ⑤ خیانت کرنے سے دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے ⑥ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرنے سے بزدلی پیدا ہوتی ہے اور دشمن کے دل سے رعب دور کر دیا جاتا ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ جنت کے درخت سُجْحَانَ

اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ہیں یعنی ان کی صورت مثالی درخت کی سی ہے لہذا جو شخص چاہے کہ جنت کے درخت حصہ میں آئیں وہ ان کلمات کو پڑھا کرے ⑦ سورہ اخلاص کی صورت مثالی محل کی طرح ہے۔ حدیث پاک میں ہے: جو شخص سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھے جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار ہوتا ہے جو بیس مرتبہ پڑھے اس کے لیے دو محل۔ الی آخر الحدیث۔ پس کثرت سے سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں بہت سے محاملیں گے ⑧ آخرت میں عمن جاری (صدقہ جاریہ) کی صورت مثالی چشمہ کی سی ہے پس جو شخص چاہے کہ جنت کا چشمہ ملے وہ خوب صدقہ و خیرات کیا کرے۔

سبق نمبر (۸۲)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ
 وَعَلَى آلِ ابْنِ مَرْثَدٍ اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر لائق
 بے شک آپ حبیبہ تعریف کے لائق۔

(۲) سلسلہ سنن بیت الخلاء کی سنتیں — (۱۴) بیت الخلاء سے نکلتے وقت
 داہنا پیروں کا لیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں: غُفْرَانَكَ اللَّهُمَّ الَّذِي
 أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي. (۱۵) بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا اس
 وقت ایسی آڑ کی جگہ میں پیشاب پاخانہ سے فارغ ہونا چاہیے جہاں کسی دوسرے
 آدمی کی نگاہ نہ پڑے (۱۶) پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کریں تاکہ چھینٹیں
 نہ اڑیں اور زمین جذب کرنی جائے۔

(۳) بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے
 گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل
 فرمائیں) (۹) تہمت لگانا یعنی جو عیب کسی میں نہ ہو وہ اس کی طرف منسوب کرنا
 (۱۰) دھوکہ دینا (۱۱) عار دلانا یعنی کسی کو اس کے کسی گناہ یا خطا پر شرمندہ کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ خیانت کرنے سے دشمن
 کا رعب ڈال دیا جاتا ہے ۲۔ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرنے سے
 بزدلی پیدا ہوتی ہے اور دشمن کے دل سے رعب دور کر دیا جاتا ہے ۳۔ حدیث
 پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے گناہوں کا انتقام لینا چاہتے ہیں تو پچھ
 بکثرت مرنے ہیں اور عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں۔

(۵) طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ سورۃ اخلاص کی صورت مثالی محل کی
 طرح ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص سورۃ اخلاص دس مرتبہ پڑھے جنت میں
 اس کے لیے ایک محل تیار ہوتا ہے جو بیس مرتبہ پڑھے اس کے لیے دو محل الی آخر
 الحدیث پس کثرت سے سورۃ اخلاص پڑھنے سے جنت میں بہت سے محل ملیں گے ۲۔ آخرت میں صل
 جاری (صدقہ جاریہ) کی صورت مثالی چشمہ کی سی ہے پس جو شخص چاہے کہ جنت کا چشمہ ملے وہ خوب
 صدقہ و خیرات کیا کرے ۳۔ دین کی صورت مثالی آخرت میں لباس کی سی ہے پس جو شخص چاہے
 کہ اسے جنت میں خوب عمدہ لباس ملے وہ دین و تقویٰ کو مضبوط پکڑے۔

سبق نمبر (۸۳)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز: اِنَّكَ بے شک آپ حبیبؑ تعریف کے لائق صحیحاً بزرگی والا۔ اِنَّكَ حبیبؑ صحیحاً بے شک آپ تعریف کے لائق بزرگی والے ہیں۔

② سلسلہ سنن: بیت الخلاء کی سنتیں — ⑮ بعض جگہ بیت الخلاء نہیں

ہوتا اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں پیشاب پاخانہ سے فارغ ہونا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے ⑯ پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کریں تاکہ چھینٹیں نہ اڑیں اور زمین جذب کرتی جائے ⑰ پیشاب کرنے کے بعد استنجا سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں مسکھانا چاہیے۔

③ بڑے بڑے گناہ: جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے

گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ⑩ دھوکہ دینا ⑪ عار دلانا یعنی کسی کو اس کے کسی گناہ یا خطار پر شرمندہ کرنا ⑫ کسی کے نقصان پر خوش ہونا۔

④ گناہ کے نقصانات: جو دنیا میں پیش آتے ہیں مگر دنیا کی محبت اور موت

سے نفرت کرنے سے بزدلی پیدا ہوتی ہے اور دشمن کے دل سے رعب دور کر دیا جاتا ہے مگر حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے گناہوں کا انتقام لینا چاہتے ہیں تو بچے بکثرت مرتے ہیں اور عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ حاکموں کے دلوں میں رہایا کے لیے غضب و غصہ پیدا فرما دیتے ہیں پھر وہ ان کو سخت عذاب و سزا کی تکلیف دیتے ہیں۔

⑤ طاعت کے ناکرے: جو دنیا میں ملتے ہیں مگر آخرت میں عمل جاری (صدقہ

جاریہ) کی صورت مثالی چشمہ کی سی ہے پس جو شخص چاہے کہ جنت کا چشمہ ملے وہ خوب صدقہ و خیرات کیا کرے مگر دین کی صورت مثالی آخرت میں لباس کی سی ہے پس جو شخص چاہے کہ اسے جنت میں خوب عمدہ لباس ملے وہ دین و تقویٰ کو مضبوط پکڑے مگر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی صورت مثالی قیامت کے دن مثل بادل سائبان یا قطار باندھے پرندوں کی بکڑیوں کے ہوگی پس جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن سائبان ہو وہ ان سورتوں کی تلاوت کیا کرے۔

سبق نمبر (۸۴)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز حَمِيْدًا تَعْرِيفِ كَے لائق مَحْمِيْدًا بزرگی والا۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ

اے اللہ! میں نے۔

② سلسلہ سنن بیت الخلاء کی سنتیں — ⑫ پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ

تلاش کریں تاکہ چھینٹیں نہ اڑیں اور زمین جذب کرتی جائے ⑭ پیشاب کرنے کے بعد استنجا سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں سکھانا چاہیے ⑮ انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو باہر اسے اتار کر بیت الخلاء جائیں، لیکن موسمِ جامدہ کیا ہو یا کپڑے میں بسلا ہوا تعویذ بہن کر جانا جائز ہے۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ⑪ عار دلانا یعنی کسی کو اس کے کسی گناہ یا خطار پر شرمندہ کرنا ⑫ کسی کے نقصان پر خوش ہونا ⑬ تکبر کرنا یعنی اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ حدیث پاک میں ہے کہ

جب اللہ تعالیٰ بندوں سے گناہوں کا انتقام لینا چاہتے ہیں تو بچے بکثرت مرتے ہیں اور عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں ۲۔ اللہ تعالیٰ حاکموں کے دلوں میں رعایا کے لیے غضب و غصہ پیدا فرمادیتے ہیں پھر وہ ان کو سخت عذاب و سزا کی تکلیف دیتے ہیں ۳۔ تعریف کرنے والا خود اس کی برائی کرنے لگتا ہے کیونکہ گنہگار کی عظمت و محبت دل سے نکل جاتی ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ دین کی صورت مثالی آخرت میں

لباس کی سی ہے پس جو شخص چاہے کہ اسے جنت میں خوب عمدہ لباس ملے وہ دین و تقویٰ کو مضبوط پکڑے ۲۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی صورت مثالی قیامت کے دن مثل بادل سا بنان یا قطار باندھے برندوں کی ٹمکڑیوں کے ہوگی پس جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن سایہ میں ہو وہ ان سورتوں کی تلاوت کیا کرے ۳۔ علم کی صورت مثالی آخرت میں مثل دودھ کے ہے پس جو شخص چاہے کہ جنت میں دودھ کا چشمہ ملے وہ علم دین حاصل کرے۔

سبق نمبر (۸۵)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز: معجزیداً بزرگی والا اللہ تعالیٰ اے اللہ! میں نے ظلمت میں نے ظلم کیا۔

② سلسلہ سنتیں: بیت الخلاء کی سنتیں ①۴ پیشاب کرنے کے بعد استنجاسکھانا، ہوتو دیوار وغیرہ

کی آڑ میں سکھانا چاہیے ①۸ انگوشی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو باہر اسے اتار کر بیت الخلاء جائیں لیکن موم جامہ کیا ہوا یا کپڑے میں بسلا ہوا تھوڑی بہن کر جانا جائز ہے۔ اب وضو کی سنتیں شروع ہوتی ہیں۔ ① وضو کی ریت کرنا مثلاً یہ کہ میں نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں۔

③ برے برے گناہ: جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ①۲ کسی کے نقصان پر خوش ہونا ①۳ تکبر کرنا یعنی اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ①۴ فخر کرنا یعنی اپنی بڑائی بھٹانا۔

④ گناہ کے نقصانات: جو دنیا میں پیش آتے ہیں ع۔ اللہ تعالیٰ حاکموں کے

دلوں میں رعایا کے لیے غضب و غصہ پیدا فرمادیتے ہیں پھر وہ ان کو سخت عذاب و سزا کی تکلیف دیتے ہیں ع۔ تعریف کرنے والا خود اس کی بُرائی کرنے لگتا ہے کیونکہ گنہگار کی عظمت و محبت دل سے نکل جاتی ہے ع۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی کی زمین سے بغیر حق کے ذرا سی بھی لے لے یعنی ناجائز قبضہ کر لے قیامت کے دن اس کو ساتوں زمین میں دھنسیا جائے گا۔

⑤ طاعت کے فائدے: جو دنیا میں ملتے ہیں ع۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران

کی صورت مثالی قیامت کے دن مثل بادل سا تباں یا قطار باندھے ہوئے پرندوں کی ٹکڑیوں کے ہوگی پس جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن سایہ میں ہو وہ ان سورتوں کی تلاوت کیا کرے ع۔ علم کی صورت مثالی آخرت میں مثل دودھ کے ہے پس جو شخص چاہے کہ جنت میں دودھ کا چشمہ ملے وہ علم دین حاصل کرے ع۔ آخرت میں نماز کی صورت مثالی مثل نور کے ہے پس جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اس کے پاس پل صراط پر نور رہے تو نماز کا خوب اہتمام کرے۔

سبق نمبر (۸۶)

تَحَمُّدًا وَتَصْلِيًّا عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز
② سلسلہ سنتیں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ظَلَمَتِكَ فِي ظُلْمَتِكَ مِمَّنْ ظَلَمْتَ مَا لَكَ بِهِ سُلْطَانٌ
بیت الخلاء کی سنتیں — ① انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت

یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو باہر سے آنا کر بیت الخلاء جائیں لیکن موم جامہ کیا ہوا یا کپڑے میں بسلا ہوا تعویذ پہن کر جانا جائز ہے۔ اب وضو کی سنتیں شروع ہوتی ہیں — ① وضو کی نیت کرنا مثلاً یہ کہ نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں ② بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ بسم اللہ والحمد للہ پڑھ کر وضو کرنے سے جب تک وضو رہے گا فرشتہ مسلسل ثواب لکھتا رہے گا چاہے بندہ مباح کاموں میں مشغول ہو۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ تکبر کرنا یعنی اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ⑤ فخر کرنا یعنی اپنی بڑائی جتانا ⑥ باوجود قدرت کے ضرورت مند کی مدد نہ کرنا۔

③ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں بل تعریف کرنے والا خود اس کی برائی کرنے لگتا ہے کیونکہ گنہگار کی عظمت و محبت دل سے نکل جاتی ہے بل بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی کی زمین سے بغیر حق کے ذرا سی بھی لے لے یعنی ناجائز قبضہ کر لے قیامت کے دن اس کو ساتوں زمین میں دھنسا یا جائے گا بل اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں گناہ پر اگر اور کوئی سزا بھی ہوتی تو ایسے کریم و محسن پروردگار کی صرف ناراضگی کے خیال سے گناہ سے بچنا ضروری تھا۔ دنیا میں بھی کوئی شریف بندہ اپنے محسن کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا، پھر اس محسن حقیقی کو ناراض کرنے کی کیسے جرأت ہوتی ہے جبکہ گناہوں پر دنیا و آخرت کے عذابوں کی بھی وعید ہے۔

⑤ طاعت کے ناکارے جو دنیا میں ملتے ہیں بل علم کی صورت مثالی آخرت میں مثل دودھ کے ہے پس جو شخص چاہے کہ جنت میں دودھ کا چشمہ ملے وہ علم دین حاصل کرے بل آخرت میں نماز کی صورت مثالی مثل نور کے ہے پس جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اس کے پاس بل صراط پر نور ہے تو نماز کا خوب اہتمام کرے بل اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں اور جب راضی ہوتا ہوں برکت کرتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں۔ (حیوة المسلمین)

سبق نمبر (۸۷)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① **ترجمہ اذکار نماز** ظلمت میں نے ظلم کیا نفسی اپنے نفس پر ظلماً کثیراً

بہت ظلم کیا۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظَلَمًا کَثِیْرًا کا ترجمہ ہوا: اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے۔

② **سلسلہ سنن** وضو کی سنتیں — ① وضو کی نیت کرنا مثلاً یہ کہ نماز کے مباح ہونے

کے لیے وضو کرتا ہوں ② بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ

بسم اللہ والحمد للہ پڑھ کر وضو کرنے سے جب تک وضو رہے گا فرشتہ مسلسل ثواب لکھتا

رہے گا چاہے بندہ مباح کاموں میں مشغول ہو ③ دونوں ہاتھوں کو گتوں تک تین بار دھونا۔

③ **بڑے بڑے گناہ** جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس

پر فضل فرمائیں) ④ فخر کرنا یعنی اپنی بڑائی جتانا ⑤ باوجود قدرت کے ضرورت مند

کی مدد نہ کرنا ⑥ کسی کے مال کا نقصان کرنا۔

③ **گناہ کے نقصانات** جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جو

شخص کسی کی زمین سے بغیر حق کے ذرا سی بھی لے لے یعنی ناجائز قبضہ کر لے قیامت کے

دن ساتوں زمین میں دھنسا یا جائے گا ۲۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں گناہ پر اگر اور کوئی سزا

نہ بھی ہوتی تو ایسے کریم اور محسن پروردگار کی صرف ناراضگی کے خیال سے گناہ سے بچنا ضروری

تھا۔ دنیا میں بھی کوئی شریف بندہ اپنے محسن کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا پھر اس محسن جنتی کو

ناراض کرنے کی کیسے جرات ہوتی ہے جبکہ گناہوں پر دنیا و آخرت کے عذابوں کی بھی

وعید ہے ۳۔ بندہ علم دین سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

⑤ **طاعت کے فائدے** جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ آخرت میں نماز کی صورت مثالی مثل

نور کے ہے پس جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اس کے پاس پل صراط پر نور رہے تو

نماز کا خوب اہتمام کرے ۲۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں اور جب راضی ہوتا ہوں

تو برکت کرتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں۔ (حیوة المسلمین) ۳۔ رزق میں

برکت عطا ہوتی ہے یعنی رزق میں کبھی ظاہری زیادتی بھی ہوتی ہے اور برکت تو ہمیشہ ہوتی ہے

کہ تھوڑے رزق میں نفع کثیر ہوتا ہے اور چین سے گذر اوقات ہوتی ہے۔

سبق نمبر (۸۸)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز
نفسی اپنے نفس پر ظلمًا کثیرًا بہت ظلم دلا یعفیٰ اور نہیں بخش سکتا کوئی۔

② سلسلہ سنن وضو کی سنتیں — ② بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا۔
ایک اور روایت میں ہے کہ بسم اللہ والحمد للہ پڑھ کر وضو کرنے سے جب تک وضو رہے گا فرشتہ مسلسل ثواب لکھتا رہے گا چاہے بندہ مباح کام میں مشغول ہو ③ دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک تین بار دھونا ③ مسواک کرنا۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ باوجود قدرت کے ضرورت مند کی مدد نہ کرنا ⑤ کسی کے مال کا نقصان کرنا ⑥ کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دُنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ گناہ پر اگر کوئی اور سزا نہ بھی ہوتی تو ایسے کریم اور محسن پروردگار کی صرف ناراضگی کے خیال سے گناہ سے بچنا ضروری تھا۔ دنیا میں بھی کوئی شریف بندہ اپنے محسن کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا، پھر اس محسن حقیقی کو ناراض کرنے کی کیسے جرأت ہوتی ہے جبکہ گناہوں پر دُنیا و آخرت کے عذابوں کی کبھی وعید ہے ۲۔ بندہ علم دین سے محروم کر دیا جاتا ہے ۳۔ رزق کم ہو جاتا ہے یعنی رزق کی برکت جاتی رہتی ہے اگرچہ بظاہر زیادہ نظر آئے لیکن اس کا نفع قلیل ہو جاتا ہے مثلاً بیماری، پریشانی، فضول خرچی و اسراف وغیرہ پر خرچ ہو گیا۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دُنیا میں ملتے ہیں ۱۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں —
حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں اور جب راضی ہوتا ہوں برکت کرتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ۲۔ رزق میں برکت عطا ہوتی ہے یعنی رزق میں کبھی ظاہری زیادتی بھی ہوتی ہے اور برکت تو ہمیشہ ہوتی ہے کہ تھوڑے رزق میں نفع کثیر ہوتا ہے اور چین سے گذراوقات ہوتی ہے ۳۔ طرح طرح کی برکتیں زمین و آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔

سبق نمبر (۸۹)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز ظَلَمْنَا كَثِيْرًا بَهِيْت ظَلَم، وَلَا يَغْفِرُ اور نہیں بخش سکتا کوئی الذَّنُوْبَ گناہوں کو۔

② سلسلہ سنن وضو کی سنتیں — ③ دونوں ہاتھوں کو گتوں تک تین بار دھونا ④ مسواک کرنا۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا۔ ⑤ تین بار گتلی کرنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ کسی کے مال کا نقصان کرنا ⑤ کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا ⑥ چھوٹوں پر رحم نہ کرنا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ بندہ عظیم دین سے محروم کر دیا جاتا ہے ۲۔ رزق کم ہو جاتا ہے یعنی رزق کی برکت جاتی رہتی ہے اگرچہ بظاہر زیادہ نظر آئے لیکن اس کا نفع قلیل ہو جاتا ہے مثلاً بیماری، پریشانی، فضول خرچی، واسراف وغیرہ پر خرچ ہو گیا ۳۔ گنہگار کو اللہ تعالیٰ سے ایک وحشت سی رہتی ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ رزق میں برکت عطا ہوتی ہے یعنی رزق میں کبھی ظاہری زیادتی بھی ہوتی ہے اور برکت تو ہمیشہ ہوتی ہے کہ تھوڑے رزق میں نفع کثیر ہوتا ہے اور چین سے گذراوقات ہوتی ہے ۲۔ طرح طرح کی برکتیں زمین و آسمان سے نازل ہوتی ہیں ۳۔ ہر قسم کی تکلیف پریشانی دور ہوتی ہے اور ہر قسم کی تنگی و دشواری سے نجات ملتی ہے۔



سبق نمبر (۹۰)

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

① ترجمہ اذکار نماز وَلَا یَغْضَبُ اور نہیں بخش سکتا کوئی الذنوب گناہوں کو الا سوا

② سلسلہ سنن وضو کی سنتیں — ③ مسواک کرنا۔ اگر مسواک نہ ہو تو

انگلی سے دانتوں کو ملنا ⑤ تین بار کئی کرنا ⑥ تین بار ناک میں پانی چڑھانا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس

پر فضل فرمائیں) ④ کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا ⑤ چھوٹوں پر رحم نہ کرنا۔

⑥ بڑوں کی عزت نہ کرنا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں مگر رزق کم ہو جاتا ہے

یعنی رزق کی برکت جاتی رہتی ہے اگرچہ بظاہر زیادہ نظر آئے لیکن اس کا نفع

قلیل ہو جاتا ہے مثلاً بیماری، پریشانی، فضول خرچی و اسراف وغیرہ پر خرچ

ہو گیا مگر گنہگار کو اللہ تعالیٰ سے ایک وحشت سی رہتی ہے مگر آدمیوں سے

خصوصاً نیک لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے اور اس طرح ان سے دور

ہو کر ان کے برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں مگر طرح طرح کی برکتیں زمین و

آسمان سے نازل ہوتی ہیں مگر ہر قسم کی تکلیف و پریشانی دور ہوتی ہے اور

ہر قسم کی تنگی و دشواری سے نجات ملتی ہے مگر ہر کام میں آسانی ہوتی ہے۔



سبق نمبر (۹۱)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز اَلَّذِي نُوْبُّ گناہوں کو، اِلَّا سِوَا، اَنْتَ یعنی تیرے سوا۔ وَلَا يَغْفِرُ اِلَّا اَنْتَ کا ترجمہ ہوا: اور تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے۔

② سلسلہ سنن وضو کی سنتیں — ⑤ تین بار گلی کرنا ⑥ تین بار ناک میں پانی چڑھانا ④ تین بار ہی ناک چھسکانا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ⑱ چھوٹوں پر رحم نہ کرنا ⑲ بڑوں کی عزت نہ کرنا۔ ⑳ حیثیت کے موافق بھوکوں اور محتاجوں کی مدد نہ کرنا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں مگر گنہگار کو اللہ تعالیٰ سے ایک وحشت سی رہتی ہے مگر آدمیوں سے خصوصاً نیک لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے اور اس طرح ان سے دور ہو کر ان کے برکات سے محروم ہو جاتا ہے مگر اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں مگر ہر قسم کی تکلیف و پریشانی دور ہوتی ہے اور ہر قسم کی تنگی و دشواری سے نجات ملتی ہے مگر ہر کام میں آسانی ہوتی ہے مگر زندگی مزیدار ہو جاتی ہے اور ایسی پر لطف زندگی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں جیسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔



سبق نمبر (۹۲)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز
إِلَّا سِوَا، أَنْتَ مَعْنَى تِيْرے سِوَا، فَاعْفِرْ لِيْ پَس مَجھے بخش دے۔

② سلسلہ سنن وضو کی سنتیں — ⑥ تین بار ناک میں پانی چڑھانا
④ تین ہی بار ناک چھنکنا ⑤ ہر عضو کو تین تین بار دھونا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ⑩ بڑوں کی عزت نہ کرنا ⑪ حیثیت کے موافق بھوکوں اور محتاجوں کی مدد نہ کرنا ⑫ کسی دنیوی رنج سے اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا۔

⑬ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں مگر آدمیوں سے خصوصاً نیک لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے اور اس طرح ان سے دور ہو کر ان کے برکات سے محروم ہو جاتا ہے مگر اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے مگر دل میں تاریکی و ظلمت پیدا ہوتی ہے جس کی نحوست سے آدمی بدعت و گمراہی و جہالت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔

⑭ نجات کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں مگر کام میں آسانی ہوتی ہے مگر زندگی مزیدار ہو جاتی ہے اور ایسی پُر لطف زندگی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں جیسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو نصیب ہوتی ہے مگر بارش ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اولاد ہوتی ہے، باغات پھلتے ہیں، نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے۔



سبق نمبر (۹۳)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز اَنْتَ یعنی تیرے سوا، فَاعْفِرْ لِيْ پس مجھے بخش دے، مَغْفِرَةً خاص بخشش۔

② سلسلہ سنتیں وضو کی سنتیں — ④ تین بار ہی ناک چھنکنا ⑤ ہر عضو کو تین تین بار دھونا ⑥ چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ حیثیت کے موافق بھوکوں اور محتاجوں کی مدد نہ کرنا ⑤ کسی دنیوی رنج سے اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا ⑥ کسی جاندار کی تصویر بنانا۔

③ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے ۲۔ دل میں تاریکی و ظلمت پیدا ہوتی ہے جس کی نحوست سے آدمی بدعت و گمراہی و جہالت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے ۳۔ دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ دل کی کمزوری یہ ہے کہ نیک کاموں کی ہمت گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو جاتی ہے اور دل کی کمزوری کا اثر جسم پر پڑتا ہے جس سے جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر قوی اور تندرست کفار بھی صحابہؓ کے مقابلہ میں نہ ٹھہر سکتے تھے۔

⑤ نجات کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ زندگی مزیدار ہو جاتی ہے اور ایسی پُر لطف زندگی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں جیسی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں بندوں کو نصیب ہوتی ہے ۲۔ بارش ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اولاد ہوتی ہے، باغات پھلتے ہیں، نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے ۳۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے تمام شر اور آفتوں کو دور کر دیتا ہے۔

سبق نمبر (۹۴)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز **فَاعْفِرْ لِي** پس مجھے بخش دے، مَغْفِرَةً فَاصْبِحْ بِخَشٍ مِنْ عِنْدِكَ اپنے پاس سے۔

② **سلسلہ سنن** وضو کی سنتیں — ⑧ ہر عضو کو تین تین بار دھونا ⑨ چہرہ دھوتے وقت دائرہ کا خلال کرنا ⑩ ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا۔

③ **بڑے بڑے گناہ** جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ کسی دنیوی رنج سے اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا ⑤ کسی جاندار کی تصویر بنانا ⑥ کسی کی زمین پر موروثی کا دعویٰ کرنا۔

④ **گناہ کے نقصانات** جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ دل میں تاریکی و ظلمت پیدا ہوتی ہے جس کی نحوست سے آدمی بدعت و گمراہی و جہالت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے ۲۔ دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ دل کی کمزوری یہ ہے کہ نیک کاموں کی ہمت گھٹنے گھٹنے بالکل ختم ہو جاتی ہے اور دل کی کمزوری کا اثر جسم پر پڑتا ہے جس سے جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر قوی اور تندرست کفار صحابہ کے مقابلہ میں نہ ٹھہر سکتے تھے ۳۔ آدمی نیکیوں کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ گناہوں کی نحوست سے رفتہ رفتہ تمام نیک کام چھوٹ جاتے ہیں، پس گناہوں سے جلد توبہ کرنی چاہیے۔

⑤ **طاغوت کے فائدے** جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ بارش ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اولاد ہوتی ہے، باغات پھلتے ہیں، نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے ۲۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے تمام شر اور آفتوں کو دور کر دیتا ہے ۳۔ مالی نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اور اس کا نعم البدل مل جاتا ہے یعنی اس نقصان کے بدلے میں کوئی اس سے بھی اچھی چیز مل جاتی ہے۔

سبق نمبر (۹۵)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز مَغْفِرَةً لِّغَاثِ بَخْشِشٍ، مِنْ عِنْدِكَ اپنے پاس سے،
وَارْحَمْنِيْ اور مجھ پر رحم فرما۔

② سلسلہ سنتیں وضو کی سنتیں — ⑨ چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا ⑩ ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا ⑪ ایک بار تمام سر کا مسح کرنا۔

③ بڑے بڑے گناہ: جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا رہنے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ کسی جاندار کی تصویر بنانا ⑤ کسی کی زمین پر موروثی کا دعویٰ کرنا ⑥ ہٹا کٹا سندرست ہونے کے باوجود بھیک مانگنا۔

④ گناہ کے نقصانات: جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ دل کی کمزوری یہ ہے کہ نیک کاموں کی ہمت گھٹتی گھٹتی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور دل کی کمزوری کا اثر جسم پر پڑتا ہے جس سے جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر قوی اور سندرست کفار بھی صحابہؓ کے مقابلہ میں نہ ٹھہر سکتے تھے ۲۔ آدمی نیکیوں کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ گناہوں کی نحوست سے رفتہ رفتہ تمام نیک کام چھوٹ جاتے ہیں، پس گناہوں سے جلد توبہ کرنا چاہیے ۳۔ عمر گھٹتی ہے اور زندگی کی برکت نکل جاتی ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے: جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے تمام شر اور آفتوں کو دور کر دیتا ہے ۲۔ مالی نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اور اس کا نعم البدل مل جاتا ہے یعنی اس نقصان کے بدلے میں کوئی اس سے بھی اچھی چیز مل جاتی ہے ۳۔ نیک کام میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔



سبق نمبر (۹۶)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز مِنْ عِنْدِكَ اپنے پاس سے، وَارْحَمْنِيْ اور مجھ پر رحم فرما، اِنَّكَ اَنْتَ بے شک تو۔

② سلسلہ سنن وضو کی سنتیں — ⑩ ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا ⑪ ایک بار تمام سر کا مسح کرنا ⑫ کانوں کا مسح کرنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ⑭ کسی کی زمین پر موروثی کا دعویٰ کرنا ⑮ ہشاکنا سندرست ہونے کے باوجود بھیک مانگنا ⑯ داڑھی منڈوانا یا ایک مشت سے کم پر کتروانا۔

⑰ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ آدمی نیکیوں کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ گناہوں کی نحوست سے رفتہ رفتہ تمام نیک کام چھوٹ جاتے ہیں، پس گناہوں سے جلد توبہ کرنا چاہیے ۲۔ عمر گھٹتی ہے اور زندگی کی برکت نکل جاتی ہے ۳۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اور چھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے حتیٰ کہ گناہ میں لذت بھی نہیں رہتی لیکن عادت سے مجبور ہو کر کرتا ہے۔

⑱ طاقت کے ناپائے جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ مالی نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اور اس کا نعم البدل مل جاتا ہے یعنی اس نقصان کے بدلے میں کوئی اس سے بھی اچھی چیز مل جاتی ہے ۲۔ نیک کام میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے ۳۔ دل کو ایسا سکون و اطمینان عطا ہوتا ہے جس کی لذت کے سامنے سارے جہان کی سلطنت کا عیش ہیچ ہے۔



سبق نمبر (۹۷)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

① **ترجمہ اذکار نماز** وَارْحَمْنِيْ اَوْر مجھ پر رحم فرما، اِنَّكَ اَنْتَ بے شک تو، الْغَفُوْرُ بخشنے والا۔

② **سلسلہ سنن** وضو کی سنتیں — ⑪ ایک بار تمام سر کا مسح کرنا ⑫ کانوں کا مسح کرنا ⑬ اعضاء وضو کو مل مل کر دھونا۔

③ **بڑے بڑے گناہ** جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ⑭ ہشاکتا سندرست ہونے کے باوجود بھیک مانگنا ⑮ داڑھی منڈوانا یا ایک مشت سے کم پر کترانا ⑯ کافروں اور فاسقوں کا لباس پہننا۔

④ **گناہ کے نقصانات** جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ عمر گھٹتی ہے اور زندگی کی برکت نکل جاتی ہے ۲۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اور چھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے حتیٰ کہ گناہ میں لذت بھی نہیں رہتی لیکن عادت سے مجبور ہو کر کرتا ہے ۳۔ توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بالکل توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور اسی نافرمانی کی حالت میں موت آجاتی ہے۔

⑤ **طاقت کے فائدے** جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ نیک کام میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے ۲۔ دل کو ایسا سکون و اطمینان عطا ہوتا ہے جس کی لذت کے سامنے سارے جہان کی سلطنت بیچ ہے ۳۔ اس شخص کی اولاد تک کو نفع پہنچتا ہے اور اولاد بھی بلاؤں سے محفوظ رہتی ہے۔



سبق نمبر (۹۸)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز اِنَّكَ اَنْتَ بے شک تو الغفور بخشنے والا الرَّحِيْم مہربان۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَدُوْم الرَّحِيْم کا ترجمہ ہوا: بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔

② سلسلہ سنن وضو کی سنتیں — ⑬ کانوں کا مسح کرنا ⑭ اعضاء وضو کو طل مل کر دھونا ⑮ پے درپے وضو کرنا (ایک عضو سوکنے سے پہلے دوسرا دھل جائے)۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ دارِ صی مُنڈوانا یا ایک مشت سے کم پر کتر وانا ⑤ کافروں اور فاسقوں کا لباس پہننا ⑥ مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا۔

⑦ گناہ کے نقصانات جو دُنیا میں پیش آتے ہیں، ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اور تھپوڑ نا دشوار ہو جاتا ہے حتیٰ کہ گناہ میں لذت بھی نہیں رہتی لیکن عادت سے مجبور ہو کر کرتا ہے۔ توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بالکل توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور اسی نافرمانی کی حالت میں موت آجاتی ہے۔ کچھ دن میں اس گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے اور یہ شخص کھلم کھلا گناہ کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت و معافی سے دور ہو جاتا ہے اور گناہ کی برائی دل سے کم ہوتے ہوتے بعض اوقات کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے (العیاذ باللہ!)۔

⑧ طاعت کے فائدے جو دُنیا میں ملتے ہیں۔ دل کو ایسا سکون و اطمینان عطا ہوتا ہے جس کی لذت کے سامنے سارے جہان کی سلطنت کا عیش ہیچ ہے۔ اس شخص کی اولاد تک کو نفع پہنچتا ہے اور اولاد بھی بلاؤں سے محفوظ رہتی ہے۔ زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہوتی ہیں، مثلاً اچھا خواب دیکھ لیا کہ جیسے جنت میں چلا گیا ہے جس سے دل خوش ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور بڑھ گئی اور اس سے مزید نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے۔

سبق نمبر (۹۹)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز اَلْعُوْمُرُ بَخْسًا وَاٰلًا اَلرَّحِيْمِ مَهْرَبًا . اَلْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ مَّوْمِنًا

② سلاہ سنن وضو کی سنتیں — ⑬ اعضاء وضو کو مل مل کر دھونا

⑭ پے در پے وضو کرنا (ایک عضو سوکنے نہ پاوے کہ دوسرا دھل جاوے)

⑮ ترتیب وار وضو کرنا۔

⑯ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس

پر فضل فرمائیں) ⑲ کافروں اور فاسقوں کا لباس پہننا ⑳ مردوں کو عورتوں

کا لباس پہننا ㉑ عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا۔

㉒ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے

یہاں تک کہ بالکل توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور اسی نا فرمانی کی حالت میں موت آجاتی ہے

۲۔ کچھ دن میں اس گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے اور یہ شخص کھلم کھلا گناہ کرنے لگتا ہے

اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور گناہ کی برائی دل سے کم ہوتے ہوتے

بعض اوقات کفر تک پہنچ جاتی ہے (العیاذ باللہ!) ۳۔ ہر گناہ دشمنانِ خدا میں

سے کسی کی میراث ہے، تو گویا یہ شخص ان ملعون قوموں کا وارث بنتا ہے اور حدیثِ پاک

میں ہے کہ جو شخص کسی قوم کی وضع بنائے وہ انہیں میں شمار ہوگا۔

㉓ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ اس شخص کی اولاد تک کو نفع پہنچتا

ہے اور اولاد بھی بلاؤں سے محفوظ رہتی ہے ۲۔ زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہوتی ہیں،

مثلاً اچھا خواب دیکھ لیا کہ جیسے جنت میں چلا گیا ہے جس سے دل خوش ہو گیا اور اللہ تعالیٰ

سے محبت اور بڑھ گئی، اور اس سے مزید نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے ۳۔ فرشتے

مرتے وقت جنت کی اور وہاں کی نعمتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوش خبری سناتے ہیں۔



سبق نمبر (۱۰۰)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز الرَّحْمٰنِ مَهْرَبَانَ. اَلْسَّلَامُ عَلَيْكَ سَلَامٌ بِرُحْمَتِ اللّٰهِ

اور رحمت اللہ کی ۔

② سلسلہ سنتیں وضو کی سنتیں — ⑬ پے در پے وضو کرنا (ایک عضو ہو کھنے

نہ پاوے کہ دوسرا دھل جاوے) ⑭ ترتیب وار وضو کرنا ⑮ داہنی طرف سے پہلے دھونا

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس

پر فضل فرمائیں) ④ مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا ⑤ عورتوں کو مردوں

کا لباس پہننا ⑥ زنا یعنی بدکاری کرنا۔

③ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں مگر کچھ دن میں اس گناہ کی

برائی دل سے نکل جاتی ہے اور یہ شخص کھلم کھلا اگناہ کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت

و رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور گناہ کی برائی دل سے کم ہوتے ہوئے بعض اوقات کفر تک

نوبت پہنچ جاتی ہے (العیاذ باللہ!) مگر گناہ دشمنانِ خدا میں سے کسی کی میراث ہے تو

گویا یہ شخص ان ملعون قوموں کا وارث بنتا ہے اور حدیثِ پاک میں ہے کہ جو شخص کسی

قوم کی وضع بنائے وہ انہیں میں شمار ہوگا مگر گنہگار شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قدر

و ذلیل ہو جاتا ہے اور مخلوق میں بھی عزت نہیں رہتی گو اس کے شریا کسی لالچ سے

اس کی تعظیم کریں لیکن کسی کے دل میں اس کی عظمت نہیں رہتی۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں مگر زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہوتی

ہیں، مثلاً اچھا خواب دیکھ لیا کہ جیسے جنت میں چلا گیا ہے جس سے دل خوش ہو گیا اور خدا سے

محبت اور بڑھ گئی اور اس سے مزید نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے مگر فرشتے مرتے وقت

جنت کی اور وہاں کی نعمتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوش خبری سناتے ہیں مگر بعض

طاغات میں یہ اثر ہے کہ اگر کسی معاملہ میں تردد ہو تو وہ جاتا رہتا ہے اور اسی طرف رائے

قائم ہو جاتی ہے جس میں سراسر خیر اور نفع ہو، نقصان کا احتمال ہی نہیں رہتا جیسے

نماز استخارہ پڑھ کر دعا کرنے سے۔

سبق نمبر (۱۰۱)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

(۱) ترجمہ ازکا نماز
اب قرآن شریف کی چند سورتوں کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ لکھا جاتا ہے تاکہ ان سورتوں کا مطلب سمجھتے ہوئے نماز پڑھنے میں دل لگے۔ سب سے پہلے سورہ کافرون کا ترجمہ شروع کیا جاتا ہے۔ قل کہدیجئے یعنی اے نبی! آپ کہدیجئے۔

(۲) سلسلہ سنن وضو کی سنتیں — (۱۵) ترتیب وار وضو کرنا (۱۶) داہنی طرف سے پہلے دھونا (۱۷) وضو کے بعد کلمہ شہادت اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ پڑھنا۔

(۳) بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) (۲۸) عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا (۲۹) زنا یعنی بدکاری کرنا (۳۰) چوری کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں یا ہر گناہ دشمنانِ خدا میں سے کسی کی میراث ہے تو گویا یہ شخص ان ملعون قوموں کا وارث بنتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کسی قوم کی وضع بنائے وہ انہیں میں شمار ہوگا یا گنہگار شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قدر و ذلیل ہو جاتا ہے اور مخلوق میں بھی عزت نہیں رہتی، گو اس کے شریک کسی لالچ سے اس کی تعظیم کریں لیکن کسی کے دل میں اس کی عظمت نہیں رہتی۔ گناہ کی نحوست نہ صرف گنہگار کو پہنچتی ہے بلکہ اس کا ضرر دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے جس کی وجہ سے جانور تک اس پر لعنت کرتے ہیں۔

(۵) طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں یا فرشتے مرتے وقت جنت کی اور وہاں کی نعمتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوش خبری سناتے ہیں یا بعض طاعات میں یہ اثر ہے کہ اگر کسی معاملہ میں تردد ہو تو وہ جاتا رہتا ہے اور اسی طرف رائے قائم ہو جاتی ہے جس میں سراسر خیر اور نفع ہو نقصان کا احتمال ہی نہیں رہتا جیسے نماز استسفارہ پڑھ کر دعا کرنے سے یا بعض طاعات میں یہ اثر ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ اے ابن آدم! میرے لیے شروع دن میں چار رکعت پڑھ لیا کر میں ختم دن تک تیرے سائے کام بنا دیا کروں گا (ترمذی)۔

سبق نمبر (۱۰۲)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز وَرَحْمَةً اَللّٰهِ اُوْر رَحْمَتِ اللّٰهِ قُلْ اَبْ كَهْدِيْجِيْ يٰ اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ لے كافر و قُلْ يٰ اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ كَا تَرْجَمُوْهُ اُوْ اَبْ كَهْدِيْجِيْ كِه اے كافر و!

② سلسلہ سنن وضو كى سنتين — ①۶ ءا سنى طرف سے پہلے دھونا ①۷ وضو

كے بعد كلمہ شہادت اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ پڑھنا ①۸ پھر یہ دعا پڑھنا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ رَا جْعَلْنِيْ مِنَ الْمُسْتَظْرِمِيْنَ .

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ كے معاف نہیں ہوتے اور ايك گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے كے لیے كافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④۹ زنا یعنی بدكارى كرنا ③۰ چورى كرنا ③۱ ذكيتى ڈالنا .

④ گناہ كے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱ گنہگار شخص اللہ تعالیٰ كے

نزدك بے قدر و ذلیل ہو جاتا ہے اور مخلوق میں بھی عزت نہیں رہتی گو اس كے شر یا كسى اللج سے اس كى تعظیم كریں لیكن كسى كے دل میں اس كى عظمت نہیں رہتی ۲ گناہ كى نكست نہ صرف گنہگار كو پہنچتی ہے بلكہ اس كا ضرر دوسرى مخلوقات كو بھی پہنچتا ہے جس كى وجہ كبا نور نكل س پر لعنت كرتے ہیں ۳ عقل میں فتور اور كى آجاتی ہے بلكہ گناہ كرنا خود عقل كى ذلیل ہے كيونكہ اگر اس كى عقل ٹھكانے ہوتی تو ایسے صاحب قدرت اور دونوں جہان كے مالك كى نافرمانى نہ كرتا اور دنیا و آخرت كے منافع كو ضائع نہ كرتا .

⑤ طاعت كے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ۱ بعض طاعات میں یہ اثر ہے كہ اگر

كسى معاملہ میں تردد ہو تو وہ جاتا رہتا ہے اور اسى طرف رائے قائم ہو جاتی ہے جس میں سراسر خیر اور نفع ہو، نقصان كا احتمال ہنى نہیں رہتا جیسے نماز استخارہ پڑھ كر دعا كرنے سے ۲ بعض طاعات میں یہ اثر ہے كہ اللہ تعالیٰ اس كے تمام كاموں كى ذمہ دارى لے لیتے ہیں . حدیث قدسی میں ارشاد ہے كہ اے ابن آدم! میرے لیے شروع دن میں چار ركعت پڑھ لیا كر میں ختم دن تك تیرے سارے كام بنا دیا كروں گا (ترمذى) ۳ بعض طاعات میں یہ اثر ہے كہ مال میں بركت ہوتی ہے جیسا كہ حدیث پاك میں بیچنے والے اور خریدنے والے كے بیچ بولنے پر اور اپنے مال كا عیب بتا دینے پر بركت كا وعدہ ہے . (جزار الاعمال)

سبق نمبر (۱۰۳)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز
 قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ آيَاتِهِمْ لِئَلَّا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنِ السُّفَهَاءِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَشَرٌّ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ
 پرستش کرتا ہوں۔

② سلسلہ سنتیں
 وضو کی سنتیں — ⑭ وضو کے بعد کلمہ شہادت اَشْهَدُ
 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَكْبَرُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھنا ⑮ پھر یہ دعا اللَّهُمَّ
 اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ پڑھنا ⑯ جس وقت
 وضو کرنا دل کو ناگوار ہو اس وقت بھی خوب اچھی طرح وضو کرنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے
 نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس
 پر فضل فرمائیں) ⑳ چوری کرنا ㉑ ڈکیتی ڈالنا ㉒ جھوٹی گواہی دینا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں اعلیٰ گناہ کی نحوست نہ صرف
 گنہگار کو پہنچتی ہے بلکہ اس کا ضرر دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے جس وجہ سے جانور تک
 اس پر لعنت کرتے ہیں اعلیٰ عقل میں فتور اور کمی آجاتی ہے بلکہ گناہ کرنا خود کم عقلی کی دلیل ہے کیونکہ
 اگر اس کی عقل ٹھکانے ہوتی تو ایسے صاحب قدرت اور دونوں جہان کے مالک کی نافرمانی نہ کرتا
 اور دنیا و آخرت کے منافع کو ضائع نہ کرتا اعلیٰ گنہگار شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت
 میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے مثلاً قوم لوط کا عمل
 کرنے والے پر تصویر بنانے والے پر جو پر صحابہؓ کو برا کہنے والے پر وغیرہ وغیرہ۔ اگر گناہوں پر اور
 کوئی سزا بھی ہوتی تو کیا یہ تصور نقصان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں یہ شخص آ گیا۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں اعلیٰ بعض طاعات میں یہ اثر ہے کہ اللہ
 تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں — حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ
 اے ابن آدم! میرے لیے شروع دن میں چار رکعت پڑھ لیا کر میں ختم دن تک تیرے سارے
 کام بنا دیا کروں گا۔ (ترمذی) اعلیٰ بعض طاعات میں یہ اثر ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے
 جیسا کہ حدیث پاک میں بیچنے والے اور خریدنے والے کے سچ بولنے پر اور اپنے مال کا عیب
 بتا دینے پر برکت کا وعدہ ہے (جزاء الاعمال) اعلیٰ حکومت و سلطنت باقی رہتی ہے۔

سبق نمبر (۱۰۴)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز: يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اے کافرو! لَا أَعْبُدُكُمْ میں پرستش کرتا ہوں، مَا تَعْبُدُونَ تمہارے معبودوں کی۔ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ کا ترجمہ ہوا: نہ میں پرستش کرتا ہوں تمہارے معبودوں کی۔

② سلسلہ سنتیں: وضو کی سنتیں — ①۸ یہ دعاء اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمَنَّانِ پڑھنا ①۹ جس وقت وضو کرنا دل کونا گوارا ہو اس وقت بھی خوب اچھی طرح وضو کرنا۔ اب مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں شروع ہوتی ہیں ②۰ مسجد میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا۔

③ بڑے بڑے گناہ: جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ③۱ ڈیکیتی ڈالنا ③۲ جھوٹی گواہی دینا ③۳ یتیم کا مال کھانا۔

④ گناہ کے نقصانات: جو دنیا میں پیش آتے ہیں عا عقل میں فتور اور کمی آجاتی ہے بلکہ گناہ کرنا خود کم عقلی کی دلیل ہے کیونکہ اگر اس کی عقل ٹھکانے ہوتی تو ایسے صاحب قدرت اور دونوں جہان کے مالک کی نافرمانی نہ کرتا اور دنیا و آخرت کے منافع کو ضائع نہ کرتا عا گنہگار شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے مثلاً قوم لوط کا عمل کرنے والے پر، تصویر بنانے والے پر، چور پر، صحابہؓ کو برا کہنے والے پر، وغیرہ وغیرہ۔ اگر گناہ پر کوئی اور سزا نہ بھی ہوتی تو کیا یہ تھوڑا نقصان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں یہ شخص آ گیا عا گنہگار آدمی فرشتوں کی دعاء سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرشتے ان مومنین کے لیے دعاء مغفرت کرتے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، پس جس نے گناہ کر کے وہ راہ چھوڑ دی وہ اس دولت کا کہاں مستحق رہا۔

⑤ طاعت کے فائدے: جو دنیا میں ملتے ہیں عا بعض طاعات میں یہ اثر ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں بھیجے والے اور خریدنے والے کے سچ بولنے پر اور اپنے مال کا عیب بتا دینے پر برکت کا وعدہ ہے (جزا الاعمال) عا حکومت سلطنت باقی رہتی ہے عا بعض مالی عبادت سے اللہ تعالیٰ کا فضل بھٹتا ہے اور بری حالت پر موت نہیں آتی — حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ پروردگار کے غضب کو بچاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔

سبق نمبر (۱۰۷)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز وَلَا اور نہ، اَنْتُمْ تم، عِبَادُؤَنْ پرستش کرتے ہو۔ وَلَا اَنْتُمْ عِبَادُؤَنْ کا ترجمہ ہوا: اور نہ تم پرستش کرتے ہو۔

② سلسلہ سنن مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں — ② درود شریف پڑھنا ③ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ پڑھنا ④ داہنا پیر مسجد میں داخل کرنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینا یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ③۴ ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور تکلیف دینا ③۵ بے خطا جان کو قتل کرنا یعنی ناحق خون کرنا ③۶ جھوٹی قسم کھانا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ طرح طرح کی خرابیاں گناہ کی نحوست سے زمین میں پیدا ہوتی ہیں۔ پانی، ہوا، غلہ، پھل ناقص ہوتا ہے ۲۔ شرم و حیا جاتی رہتی ہے اور جب شرم نہیں رہتی تو آدمی جو کچھ کر گزرے تھوڑا ہے ۳۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے، پس اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی عزت نہیں رہتی، پھر یہ شخص لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ دعا سے بلا ٹپتی ہے اور نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے ۲۔ تمام کام بن جاتے ہیں — حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص شروع دن میں سورہ یسین پڑھے اس کی تمام ضروریات پوری کی جائیں گی (داری) ۳۔ فاقہ نہیں ہوتا — حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔

سبق نمبر (۱۰۸)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز اَنْتُمْ تَمَّ عِبَادُونَ پرستش کرتے ہو، مَا اَعْبُدُ میرے معبود کی

وَلَا اَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا اَعْبُدُ کا ترجمہ ہوا، اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو۔

② سلسلہ سنن مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں — ④ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ پڑھنا ⑤ داہنا پیر مسجد میں داخل کرنا ⑥ اعتکاف کی نیت کرنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس

پر فضل فرمائیں) ④ بے خطا جان کو قتل کرنا یعنی ناحق خون کرنا ⑤ جھوٹی قسم

کھانا ⑥ رشوت لینا۔

③ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ شرم و حیا جاتی رہتی ہے

اور جب شرم نہیں رہتی تو آدمی جو کچھ کر گذرے تھوڑا ہے ۲۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل سے

نکل جاتی ہے، پس اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی عزت نہیں رہتی، پھر یہ شخص لوگوں کی

نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے ۳۔ نعمتیں چھین جاتی ہیں اور بلاؤں اور مصیبتوں کا

ہجوم ہوتا ہے، بعض گنہگار اگر بڑے عیش میں نظر آتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے

اور ایسا شخص اور بھی زیادہ خطرہ میں ہے کیونکہ جب یہ پکڑ میں آئیں گے تو اکٹھی سزا دی جائیگی۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ تمام کام بن جاتے ہیں —

حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص شروع دن میں سورہہ یٰسین پڑھ لے اس کی تمام ضروریات

پوری کی جائیں گی ۲۔ بعض عبادت و نیکی سے فائدہ نہیں ہوتا — حدیث پاک میں ہے

کہ جو شخص ہر رات سورہہ واقعہ پڑھا کرے اس کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا ۳۔ ایمان و طاعت

کی برکت سے تھوڑے کھانے میں سیری ہو جاتی ہے۔



سبق نمبر (۱۰۹)

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّي عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

① ترجمہ اذکار نماز عِبَادُوْنَ پُرستش کرتے ہو، مَا اَعْبُدُ میرے معبود کی، وَلَا اَا

اور نہ میں۔

② سلسلہ سنتیں مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں ③ داہنا پیر داخل کرنا ⑤ اعتکاف

کی نیت کرنا۔ اب مسجد سے نکلنے کی سنتیں شروع ہوتی ہیں۔ ⑥ بسم اللہ پڑھنا

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس

پر فضل فرمائیں) ③۶ جھوٹی قسم کھانا ③۷ رشوت لینا ③۸ رشوت دینا۔ (البتہ

جہاں بغیر رشوت دیے ظالم کے ظلم سے نہ بچ سکے وہاں رشوت دینے والے کو گناہ نہ

ہوگا لیکن رشوت لینا ہر حال میں حرام ہے۔)

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی عظمت دل سے

نکل جاتی ہے، پس اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی عزت نہیں رہتی، پھر یہ شخص لوگوں کی نظروں میں

ذلیل و خوار ہو جاتا ہے مگر نعمتیں چین جاتی ہیں اور بلاؤں اور مصیبتوں کا جوڑم ہوتا ہے، بعض گنہگار

اگر بڑے عیش میں نظر آتے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے ڈھیل ہے اور ایسا شخص اور بھی زیادہ خطرہ میں

ہے کیونکہ جب یہ پکڑ میں آئیں گے تو انکھی سزا دی جائے گی مگر عزت و شرافت کے القاب چھین کر

ذلت و رسوائی کے خطاب ملتے ہیں، مثلاً یہی کرنے سے جو شخص نیک، فرماں بردار، پرہیزگار کہلاتا

ہے اگر خدا نخواستہ گناہ کرنے لگا تو اب وہی شخص فاسق و فاجر، ظالم و ضعیف وغیرہ کہا جاتا ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں مگر بعض عبادت و نیکی سے ذوق نہیں

ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا مگر ایمان

و طاعت کی برکت سے تھوڑے کھانے میں سیری ہو جاتی ہے مگر بعض دعاؤں کی برکت سے بیماری لگنے

اور مصیبت آنے کا خوف نہیں رہتا جیسے کسی مریض یا مبتلائے مصیبت کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنے

سے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا اَبْتَکَلٰکَ بِہٖ وَفَضَّلَنِیْ عَلٰی کَثِیْرٍ مِّنْ خَلْقٍ تَفْضِیْلًا۔ (ترمذی)

سبق نمبر (۱۱۰)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز مَا اَعْبُدُ مِثْلَ مَعْبُوْدِكَ، وَلَا اَنَا اَوْرَنُ مِثْلَ عَابِدِكَ پرستش

کروں گا، وَلَا اَنَا عَابِدُكَ کا ترجمہ ہوا: اور نہ میں پرستش کروں گا۔

② سَلَامَتُنَّ مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی سنتیں — ⑤ اعتکاف کی

نیت کرنا ① بِسْمِ اللّٰهِ پڑھنا ② درود شریف پڑھنا اس طرح — بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ رشوت لینا ⑤ رشوت دینا (البتہ جہاں بغیر رشوت دینے ظالم کے ظالم سے نہ بچ سکے وہاں رشوت دینے والے کو گناہ نہ ہوگا لیکن رشوت لینا ہر حال میں حرام ہے) ⑥ شراب پینا۔

⑦ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ نعمتیں چھین جاتی ہیں اور

بلاؤں اور مصیبتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ بعض گنہگار اگر بڑے عیش میں نظر آتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلیل ہے اور ایسا شخص اور بھی زیادہ خطرہ میں ہے کیونکہ جب یہ بکڑ میں آئیں گے تو اکٹھی سزا دی جائے گی ۲۔ عزت و شرافت کے القاب چھین کر ذلت و رسوائی کے خطاب ملتے ہیں، مثلاً نیکی کرنے سے جو شخص نیک، فرماں بردار، پرہیزگار کہلاتا ہے اگر خدا نخواستہ گناہ کرنے لگا تو اب وہی شخص فاجر و فاسق، ظالم و خبیث وغیرہ کہا جاتا ہے ۳۔ شیطاں گنہگار پر مسلط ہو جاتے ہیں اور باسانی اس کے اعضاء کو گناہوں میں غرق کر دیتے ہیں۔

⑧ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ ایمان و طاعت کی برکت تھوڑے کھانے میں

سیری ہو جاتی ہے ۲۔ بعض عاؤں کی برکت سے بیماری لگنے اور مصیبت آنے کا خوف نہیں رہتا جیسے کسی مریض یا مبتلائے مصیبت کو دیکھ کر عمار پڑھنے سے الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْكَذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَ فَضَلْتَنِي عَلٰی كَثِيْرٍ مِّنْ خَلْقٍ تَفْضِيْلًا ۳۔ بعض عاؤں کی برکت فکر سے زائل ہو جاتی ہیں اور قرض ادا ہو جاتا ہے مثلاً اس عار سے جو حدیث میں ہے الْكَلْبُ الَّذِيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْحُزْنِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكِلِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْجَلِّ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدُّنْيِ قَهْرِ الرِّجَالِ

سبق نمبر (۱۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز وَلَا آتَا عَابِدًا مَا عَبَدَاكُمْ تَمَاهِي مَبُودُوں کی وَلَا آتَا عَابِدًا مَا عَبَدَاكُمْ کار ترجمہ ہوا: اور نہ میں پرستش کروں گا تمہارے مبودوں کی۔

② سلسلہ سنتیں مسجد سے نکلنے کی سنتیں - ① بسم اللہ پڑھنا ② درود شریف پڑھنا ③ دعا پڑھنا اس طرح بِسْمِ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ③ رشوت دینا (البتہ جہاں بغیر رشوت دینے ظالم کے ظلم سے نہ بچ سکے وہاں رشوت دینے والے کو گناہ نہ ہوگا لیکن رشوت لینا ہر حال میں حرام ہے۔) ④ شراب پینا ⑤ شراب پلانا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں عذرت و شرافت کے القاب چھن کر ذلت و رسوائی کے خطاب ملتے ہیں۔ مثلاً شکی کرنے سے جو شخص نیک، فرماں بردار، پرہیزگار کہلاتا ہے اگر خدا نخواستہ گناہ کرنے لگا تو اب وہی شخص فاسق و فاجر، ظالم و خبیث وغیرہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً شیاطین گنہگار پر مسلط ہو جاتے ہیں اور آسانی اس کے اعضاء کو ہوں میں غرق کر دیتے ہیں۔ مثلاً دل کا اطمینان جاتا رہتا ہے اور ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کہیں عزت نہ جاتی رہے، کوئی بدلہ نہ لینے لگے وغیرہ، جس سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ع بعض دعاؤں کی برکت سے بیماری لگنے اور مصیبت آنے کا خوف نہیں رہتا، جیسے کسی مریض یا مبتلائے مصیبت کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنے سے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي مَهَابَتِهَا ابْتِلَاكَ بِهَا، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ مَّخَلْقٍ مُّقْتَضِيًّا۔ ع بعض دعاؤں کی برکت سے فکریں نائل ہو جاتی ہیں اور قرض ادا ہو جاتا ہے، مثلاً اس دعا سے جو حدیث پاک میں تعلیم فرمائی گئی ہے: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَجْرِ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْجَلْدِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ ع بعض دعاؤں کے ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے، جیسے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس صبح و شام تین تین بار پڑھنے سے مخلوق کے ہر شر سے حفاظت کا حدیث پاک میں وعدہ ہے۔

سبق نمبر (۱۱۲)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز وَلَا اِنَّا عَابِدُكَ اور نہ میں پرستش کروں گا۔ مَا عَبَدْنَاكَ تمہارے معبودوں کی، وَلَا اَنْتَ عَابِدُؤُنَّ اور نہ تم پرستش کرو گے۔

② سلسلہ سنن مسجد سے نکلنے کی سنتیں — ② درود شریف پڑھنا ③ دعا پڑھنا اس طرح وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ الْاُمِّمَةِ اِنِّي اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ③ مسجد سے پہلے بیاں پیر نکالنا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ شراب پینا ⑤ شراب پلانا ⑥ شراب پھوڑنا یعنی کشید کرنا یا بنانا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ شیاطین گنہگار پر مسلط ہو جاتے ہیں اور آسانی اس کے اعضاء کو گناہوں میں غرق کر دیتے ہیں ۲۔ دل کا اطمینان جاتا رہتا ہے اور ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کہیں عزت نہ جاتی رہے، کوئی بدلہ نہ لینے لگے، وغیرہ جس سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے ۳۔ گناہ کرتے کرتے وہی گناہ دل میں بس جاتا ہے یہاں تک کہ مرنے وقت کلمہ تک منہ سے نہیں نکلتا بلکہ جو کام زندگی بھر کرتا تھا وہی سرزد ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص کو کلمہ پڑھانے لگے تو کہا کہ یہ میرے منہ سے نہیں نکلتا اور مر گیا۔ (نعوذ باللہ!)

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ بعض دعاؤں کی برکت فکریں زائل ہوتی ہیں اور قرض ادا ہو جاتا ہے مثلاً اس دعا سے جو حدیث پاک میں تعلیم فرمائی گئی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْحُزْنِ وَاعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْجَلْبِ وَالْاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ . ۲۔ بعض دعا مخلوق کے ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے جیسے سورہ اعملاص سورہ فلق، سورہ ناس تین تین بار پڑھنے سے مخلوق کے ہر شر سے حفاظت کا حدیث پاک میں وعدہ ہے ۳۔ بعض عبادات سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں۔

سبق نمبر (۱۱۳)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز مَاعْبُدُكَ تہمارے معبودوں کی، وَلَا اَنْتُمْ غَيْدُونَ اور نہ تم پرستش کرو گے، مَا اَعْبُدُ میرے معبود کی۔

② سلسلہ سنن مسجد سے نکلنے کی سنتیں — ③ دعا پڑھنا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ④ مسجد سے پہلے بایاں پیر نکالنا ⑤ پہلے داہنے پیر میں جوتا یا چپل پہننا۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ شراب پلانا ⑤ شراب پھوڑنا یعنی کشید کرنا یا بنانا ⑥ شراب پھوڑوانا یعنی کشید کرانا یا بنوانا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ دل کا اطمینان جاتا رہتا ہے اور ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کہیں عزت نہ جاتی رہے، کوئی بدلہ نہ لینے لگے وغیرہ جس سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے ۲۔ گناہ کرتے کرتے وہی گناہ دل میں بس جاتا ہے یہاں تک کہ مرتے وقت کلمہ تک منہ سے نہیں نکلتا بلکہ جو کام زندگی بھر کیا کرتا تھا وہی سرزد ہوتے ہیں مثلاً ایک شخص کو کلمہ پڑھانے لگے تو کہا کہ یہ میرے منہ سے نہیں نکلتا اور مر گیا — (نعوذ باللہ!) ۳۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی ہو جاتی ہے اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا اور بے توبہ مرتا ہے۔ ایک شخص کو مرتے وقت کلمہ پڑھے تو کہا گیا تو کہا کہ اس کلمہ سے کیا ہوگا میں نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی اور مر گیا۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ بعض دعا مخلوق کے ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے جیسے سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس تین تین بار صبح و شام پڑھنے سے مخلوق کے ہر شر سے حفاظت کا حدیث پاک میں وعدہ ہے ۲۔ بعض عبادات سے حاجت الٰہی میں مدد ملتی ہے، جیسے نماز استغفار پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں ۳۔ ایمان و دینداری کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے۔

سبق نمبر (۱۱۴)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

۱) ترجمہ اذکار نماز وَلَا اَنْتُمْ مُبْدُوْنَ اور نہ تم پرستش کرو گے، مَا اَعْبُدُ سِوَاكَ میرے معبود کی، لَكَ دِيْنُكُمْ تم کو تمہارا بدلہ ملے گا۔

۲) سلسلہ سنتیں مسجد سے نکلنے کی سنتیں — ۴) مسجد سے پہلے بائیں پیر لگانا ۵) پہلے داہنے پیر میں جو تاپا چپل پہننا۔ اب سونے کی سنتیں شروع ہوتی ہیں ۶) با وضو سونا۔

۳) بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ۴۱) شراب چھوڑنا یا کشید کرنا یا بنانا ۴۲) شراب کو چھوڑنا یعنی کشید کرنا یا بنوانا ۴۳) شراب بیچنا۔

۴) گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ گناہ کرتے کرتے وہی گناہ دل میں بس جاتا ہے یہاں تک کہ مرتے وقت کلمہ تک منہ سے نہیں نکلتا بلکہ جو کام زندگی بھر کیا کرتا تھا وہی سرزد ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص کو کلمہ پڑھانے لگے تو کہا کہ یہ میرے منہ سے نہیں نکلتا اور مر گیا۔ (نعوذ باللہ!) ۲۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتی ہے اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا اور بے توبہ مرتا ہے۔ ایک شخص کو مرتے وقت کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو کہا کہ اس کلمہ سے کیا ہوگا میں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی اور مر گیا ۳۔ گناہ سے دل پر ایک سیاہ دھبہ لگ جاتا ہے جو توبہ سے مٹ جاتا ہے ورنہ بڑھتا ہی رہتا ہے جس سے قبول حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔

۵) طاقت کے نام سے جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ بعض عبادات سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے، جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں ۲۔ ایمان و دینداری کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے ۳۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔

سبق نمبر (۱۱۵)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

① ترجمہ اذکار نماز مَا عَبَدُ مِثْلَ مَبْعُودِكَ، لَكُمُ دِينُكُمْ تم کو تمہارا بدلہ ملے گا، ولی دین اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔

② سلسلہ سنتیں ⑤ مسجد سے نکلتے وقت پہلے داہنے پیر میں جو تاپا یا چپل پہننا۔ سونے کی سنتیں — ① ہادضوہ سونا ② جب اپنے بستر پر آئے تو اسے اپنے کپڑے کے گوشہ سے سینہ بار جھاڑ لے۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ شراب نخوڑوانا یعنی کشید کرانا یا بنوانا ⑤ شراب بیچنا ⑥ شراب خریدنا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی ہو جاتی ہے اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا اور بے توبہ مرتا ہے۔ ایک شخص کو مرتے وقت کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو کہا کہ اس کلمہ سے کیا ہوگا میں نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی اور مر گیا۔ گناہ سے دل پر ایک سیاہ دھبہ لگ جاتا ہے جو توبہ سے مٹ جاتا ہے ورنہ بڑھتا ہی رہتا ہے جس سے قبول حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا سے رغبت اور آخرت سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے جس سے دنیائے فانی کے کاموں میں انہماک اور آخرت کے کاموں سے بیزاری ہو جاتی ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ایمان و دینداری کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابِت قدم رکھو۔ کامل ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سچی عزت عطا فرماتے ہیں۔



سبق نمبر (۱۱۶)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ


① ترجمہ اذکار نماز لَكُمْ دِينِكُمْ تم کو تمہارا بدل ملے گا، وَلِي دِينِ اور مجھ کو میرا بدل ملے گا۔ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔

② سونے کی سنتیں ① با وضو سونا ② جب اپنے بستر پر آئے تو اسے اپنے کپڑے کے گوشے سے تین بار جھاڑے ③ سونے سے پہلے اپنے دوسرے کپڑے تبدیل کرنا سنت ہے۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ شراب بیچنا ⑤ شراب خریدنا ⑥ شراب کے دام کھانا۔

④ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں اے گناہ سے دل پر ایک دھجہ لگ جاتا ہے جو توبہ سے مٹ جاتا ہے، ورنہ بڑھتا ہی رہتا ہے جس سے قبول حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اے دنیا کی رغبت اور آخرت سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے جس سے دنیائے فانی کے کاموں میں انہماک اور آخرت کے کاموں سے بیزاری ہو جاتی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں اے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قومی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔ اے کائنات ایمان واہر، اللہ تعالیٰ سچی عزت عطا فرماتے ہیں اے ایمان و طاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرماتے ہیں۔



سبق نمبر (۱۱۷)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ


① ترجمہ اذکار نماز: دینی دین اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ
الْفَلَقِ آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں، مِنْ شَيْءِ مَا خَلَقَ تَمَام
مخلوقات کی شر سے۔

② سونے کی سنتیں: ② جب اپنے بستر پر آئے تو اسے اپنے کپڑے کے گوشے
سے تین بار جھاڑ لے ③ سونے سے پہلے اپنے دوسرے کپڑے تبدیل کرنا سنت
ہے ④ سوتے وقت ہر آنکھ میں تین تین سدا لائی سُرمہ لگانا مرد و عورت دونوں
کے لیے مسنون ہے۔

③ بڑے بڑے گناہ: جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے
نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس
پر فضل فرمائیں) ④ شراب خریدنا ⑤ شراب کے دام کھانا ⑥ شراب لا کر
لانا۔ یعنی کسی کے لیے شراب لانا۔

④ گناہ کے نقصانات: جو دنیا میں پیش آتے ہیں مگر دنیا کی رغبت اور آخرت
سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے جس سے دنیائے فانی کے کاموں میں انہماک اور
آخرت کے کاموں سے بیزاری ہو جاتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے
مگر دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے: جو دنیا میں ملتے ہیں مگر کامل ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ
سچی عزت عطا فرماتے ہیں مگر ایمان و طاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے
مراتب بلند فرماتے ہیں مگر مخلوق کے دلوں میں ایسے لوگوں کی محبت ڈال
دی جاتی ہے اور زمین پر ان کو مقبولیت عطا کی جاتی ہے۔



سبق نمبر (۱۱۸)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز **قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ** آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں، **مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ** تمام مخلوقات کی شر سے، **وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ** اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آجائے۔

② سونے کی سنتیں ③ سونے سے پہلے اپنے دوسرے کپڑے تبدیل کرنا ④ سوتے وقت ہر آنکھ میں تین تین سلائی سرمد لگانا مرد و عورت دونوں کے لیے مسنون ہے ⑤ سوتے وقت دائیں کروٹ پر قبلہ رو سونا — پٹ لینا کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے کیونکہ اس طرح شیطان سوتا ہے۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ شراب کے دام کھانا ⑤ شراب لا کر لانا یعنی کسی کے لیے شراب لانا ⑥ شراب منگانا۔

③ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے ④ دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے ⑤ گناہ سے بسا اوقات نیکیوں کے فائدے ضائع ہو جاتے ہیں۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ⑥ ایمان و طاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرماتے ہیں ⑦ مخلوق کے دلوں میں ایسے لوگوں کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور زمین پر ان کو مقبولیت عطا کی جاتی ہے۔ ⑧ کامل الایمان نیک لوگوں کے حق میں قرآن پاک ہدایت و شفاء ہے۔



سبق نمبر (۱۱۹)

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِيْمِ

① **ترجمہ اذکار نماز** مِنْ شَيْءٍ مَّا خَلَقَ تَمَامِ مَخْلُوْقَاتِ كِي شَرَسِ ، وَمِنْ شَيْءٍ

غَائِبِ اِذَا وَقَبَ اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آجائے ، وَ مِنْ شَيْءٍ النَّفْسِ فِي الْعَقْلِ اور گریہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے۔

② **ہونے کی سنتیں** ④ سوتے وقت ہر آنکھ میں تین تین سلانی سرمہ لگانا مرد

و عورت دونوں کے لیے مسنون ہے ⑤ سوتے وقت داہنی کروٹ پر قبلہ رو سونا۔

پٹ لینا کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے کیونکہ اس طرح شیطان سوتا

ہے ⑥ بستر پر لیٹ کر یہ دعا اَللّٰهُمَّ بِاَسْحَابِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيِيْ پڑھے۔

③ **بڑے بڑے گناہ** جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے

نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس

پر فضل فرمائیں) ④ شراب لا کر لانا یعنی کسی کے لیے شراب لانا ⑤ شراب

منگانا ⑥ جہاد شرعی سے بھاگ جانا۔

③ **گناہ کے نقصانات** جو دُنیا میں پیش آتے ہیں مگر دل کی مضبوطی اور دین

کی پختگی جاتی رہتی ہے مگر گناہ سے بسا اوقات نیکیوں کے فائدے ضائع ہو جاتے

ہیں مگر بے حیائی کے کاموں سے طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں پھیلتی ہیں

جو پہلے لوگوں میں نہیں تھیں جیسے کینسر اور ایڈز۔

⑤ **طاعت کے فائدے** جو دُنیا میں ملتے ہیں مگر مخلوق کے دلوں میں ایسے لوگوں

کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور زمین پر ان کو مقبولیت عطا کی جاتی ہے۔

مگر کامل الایمان لوگوں کے حق میں قرآن پاک ہدایت و شفاء ہے مگر مُشکر

کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔



سبق نمبر (۱۲۰)

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

① ترجمہ اذکار نماز: وَمِنْ شَيْءٍ عَاسِقٍ اِذَا وَقَبَّ اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آجائے، وَمِنْ شَيْءٍ التَّقَشَّتْ فِي الْعُقَدِ اور گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، وَمِنْ شَيْءٍ حَاسِدٍ اِذَا احْسَدَ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔

② سونے کی سنتیں ⑤ سوتے وقت داہنی کروٹ پر قبلہ رو سونا۔ پٹ لیٹنا کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے کیونکہ اس طرح شیطان سوتا ہے ⑥ بستر پر لیٹ کر یہ دعا رَ اللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا پڑھے ⑦ اگر کوئی ڈراؤنا خواب نظر آئے اور آنکھ کھل جائے تو اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ وَشَيْءٍ هٰذِيْهِ الرَّؤْيَا تین بار پڑھ کر بائیں طرف تھکتا رو دو اور کروٹ بدل کر سوجاؤ۔

③ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے (مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں) ④ شراب منگانا ④۸ جہاد شرعی سے بھاگ جانا ④۹ رشوت کے معاملہ میں پڑنا مثلاً رشوت لینے دینے کا معاملہ طے کرا دینا۔

③ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ۱۔ گناہ سے بسا اوقات نیکوں کے فائدے ضائع ہو جاتے ہیں ۲۔ بے حیائی کے کاموں سے طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں پھیلتی ہیں جو پہلے لوگوں میں نہیں تھیں جیسے کینسر اور ایڈز ۳۔ زکوٰۃ نہ دینے سے بارش بند ہو جاتی ہے۔

⑤ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں ۱۔ کامل الایمان نیک لوگوں کے حق میں قرآن پاک ہدایت و شفا ہے ۲۔ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ۳۔ آخرت میں صراط مستقیم کی صورت مثالی مثل پل صراط کے ہے، پس جس شخص نے دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت کی یعنی شریعت پر خوب قائم رہا وہ پل صراط سے پلک جھپکتے صحیح سالم گذر جائے گا۔ (جاری)

نوٹ : الحمد للہ! ایک منٹ کے مدرسہ کے ۱۲۰ اسباق تین چلوں یعنی چار ماہ کے لیے ہو گئے۔ مساجد کے ائمہ حضرات اب یہ کریں کہ سبق نمبر ایک سے دوبارہ سنانا شروع فرمادیں، البتہ روزانہ ایک سنت کسی کتاب سے مثلاً "گنزار سنت" مولفہ حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے یا احقر کی کتاب "رسول اللہ کی سنتیں" سے سنا دیا کریں۔ ان ایک سو بیس اسباق میں الحمد للہ تعالیٰ نماز کی سنتیں، سوکراٹھنے کی، بیت الخلاء کی، وضو کی، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی اور سونے کی اکثر سنتیں بیان ہو گئیں لہذا جو سنتیں ان اسباق میں بیان نہیں ہوئیں مثلاً کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، لباس کی سنتیں، اذان و اقامت کی سنتیں، سفر، نکاح، بیماری و عیادت اور موت کی سنتیں وغیرہ وغیرہ مذکورہ کتب سے ایک ایک سنت روزانہ سنادیں۔ یعنی ایک سنت تین دن اور تین سنت ایک دن۔ اس طرح سال بھر میں اُمت کو ۳۶۰ سنن یاد ہو سکتی ہیں اور پوری زندگی سنت کے مطابق ڈھل سکتی ہے، بس ہر سبق میں ایک نئی سنت مذکورہ کتب سے سنادیں۔ باقی نمبرات مثلاً ایک کبیرہ گناہ، گناہ کے نقصانات، عبادت و طاعت کے فائدے ہر سبق سے جوں کے توں سنادیں۔ اس طرح پورے سال "ایک منٹ کا مدرسہ" جاری رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم میں ایک منٹ کا مدرسہ جاری فرمادیں۔

۵ مدرسے ایک منٹ کے اور یہ انوار سنت کے

جہاں میں عام ہو جائیں یہ سب گنزار سنت کے (احقر)

اور امت مسلمہ کے لیے اس کا نفع عام و تام فرمادیں اور اس کو شرف قبولیت عطا فرمادیں
 اٰمِنُ! يَا سَرَبَ الْعٰلَمِيْنَ! رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى
 عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدًا وَّ اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ! بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ!
 راقم الحروف: احقر محمد اختر عفا اللہ عنہ، ۲۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۰ھ مطابق ۲۴ دسمبر ۱۹۸۹ء،
 بروز یکشنبہ، بوقت سوا بارہ بجے شب۔

ترتیب جدید بحکم حضرت والا شاہ ہرردوی دامت برکاتہم بقلم احقر عبدالرؤف غفرلہ سنسار پوری
 تاریخ تکمیل ۲۲ رجب ۱۴۱۰ھ ۸ فروری ۱۹۹۱ء یوم جمعہ پونے گیارہ بجے۔

جامع المجددین حضرت حکیم الامتہ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی

قدس اللہ سرہ کی بعض وصیتیں اور مشورے

(ماخوذ از اصول فلاح دارین)

ترجمہ: معنی الشنتہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم

(۱) میں اپنے دوستوں کو خصوصاً اور سب مسلمانوں کو عموماً بہت تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ علم دین کا خود سیکھنا اور اولاد کو تعلیم کرانا ہر شخص پر فرض عین ہے خواہ بذریعہ کتاب ہو یا بذریعہ صحبت۔ بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ فتن دینیہ سے حفاظت ہو سکے جن کی آج کل بجد کثرت ہے۔ اس میں ہرگز غفلت کو تاہی نہ کریں (۲) طالب علموں کو وصیت کرتا ہوں کہ نرے درس تدریس پر مغرور نہ ہوں اس کا کارآمد ہونا موقوف ہے اہل اللہ کی خدمت و محبت و نظر عنایت پر اس کا التزام نہایت اہتمام سے رکھیں

بے عنایات حق و خاصان حق : گر ملک باشد سیہ ہستش ورق لے

(۳) معاملات کی صفائی گوریانت سے بھی زیادہ مہتمم بالشان سمجھیں (۴) روایات حکایات میں بے انتہا احتیاط کریں۔ اس میں بڑے بڑے دیندار اور فہیم لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں خواہ سمجھنے میں یا نقل کرنے میں (۵) بلا ضرورت بالکلہ اور ضرورت میں بلا اجازت تجویز طیب حازق شفیق کے کسی قسم کی دوا ہرگز استعمال نہ کریں (۶) حتی الامکان دنیا و مافیہا سے جی نہ لگاویں اور کسی وقت فکر آخرت سے غافل نہ ہوں ہمیشہ ایسی حالت میں رہیں کہ اگر کسی وقت پیام اجل آجائے تو کوئی فکر اس تمتا کا مقتضی نہ ہو۔ **لَوْلَا آخِرَتِي لَآتَىٰ اِيَّيْ جَلِّي تَرِيْبٌ**

فَاَصْدَقٌ وَاَكْبَرُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ اور ہر وقت یہ سمجھیں **عَلَّ**
شاید ہمیں نفس نفس واپسین بود

میں اپنے تمام منتسبین سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر شخص اپنی عمر بھر یاد کرے ہر روز سورہ یسین شریف یا تین بار قل ہو اللہ شریف پڑھ کر مجھ کو بخش دیا کرے مگر اور کوئی امر خلاف سنت بدعات عوام خواص میں سے نہ کریں۔ ————— پیش کنندہ مضمون ہذا محمد الیاس قریشی

لے اللہ تعالیٰ اور اس کے خاص بندوں کی نظر عنایت کے بغیر فرشتہ بھی بن جائے تو بے سود ہے۔

تے (موت کے وقت بطور حسرت کہنے لگے) اے میرے پروردگار! مجھ کو اور تھوڑی مدت کے لئے کیوں بہت نزدیکی میں فرخیرات دے لیتا تو زندگی کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ تے شاید یہ آخری ہی سانس ہو۔